


تَسْهِيلُ الْإِنشَاءِ




جزء ثانی

عَلَامَةُ مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ الْأَزْهَرِيِّ
عَلَامَةُ مُحَمَّدٍ سَعِيدِ الْأَزْهَرِيِّ
من علماء دارالعلوم مجتهدية غوثية بهار شريف

مرکز العلوم اسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان
www.waseemziyari.com

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
لاہور



August-2018

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹرنیٹک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ

شعبہ درس نظامی و تجوید: 10 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

چوکیدار: 2

خادم: 4

باورچی: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

f @markazuloom

▶ waseem ziyai

www.waseemziyai.com



الجزء الثاني

علامہ محمد سعید الازہری

علامہ محمد اکرم الازہری

من علماء دارالعلوم الخدیویہ الغوثیہ • بحیرہ شریف

ضیاء القرآن پبلی کیشنز • لاہور

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تسہیل الانشاء (حصہ دوم)
علامہ محمد سعید الازہری، علامہ محمد اکرم الازہری
من علماء دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیرہ شریف
محمد حفیظ البرکات شاہ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
جون 2016ء

ایک ہزار
DR5

نام کتاب
مصنفین

ناشر

تاریخ اشاعت

تعداد

کمپیوٹر کوڈ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون:- 37221953 فیکس:- 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون:- 37247350 فیکس:- 042-37225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون:- 021-32212011-32630411 فیکس:- 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

الدَّرْسُ الْأَوَّلُ

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

تَسْتَيْقِظُ جَدَّةٌ صَفِيَّةٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّيُ الْفَجْرَ
ثُمَّ تَتْلُو الْقُرْآنَ -

يَوْمًا جَاءَتْ صَفِيَّةٌ إِلَى جَدَّتِهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ
الْقُرْآنَ - قَالَتْ لَهَا جَدَّتُهَا: يَا بِنْتِي! هَذَا الْكِتَابُ طَاهِرٌ وَلَا
يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذِيهِ بِدُونِ الْوُضُوءِ -

قَالَتْ صَفِيَّةُ: لِمَ؟

أَجَابَتْ الْجَدَّةُ: إِنَّ الْقُرْآنَ كِتَابُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ - نَحْنُ نَحْتَرِمُهُ -

قَالَتْ صَفِيَّةُ: أَنَا أَتَوَضَّأُ أَوَّلًا ثُمَّ أَتْلُو الْقُرْآنَ - وَأُحَاوِلُ أَنْ

أَفْهَمَهُ وَأَعْمَلَ بِهِ -

تمرین

۱۔ مضارع سے ماضی اور ماضی سے مضارع بنائیں۔

تصلیٰ - نتوضاً - تتلو - جاءت - أنزل -

۲۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

القرآن - جدتی - الكتاب - صلوة الفجر -

الوضوء -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

میرے دادا جان صبح سویرے اٹھتے ہیں۔

وضو کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔

پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔

اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں۔

وہ مسجد میں اذان دیتے ہیں۔

لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔

قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔

یہ کتاب حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔

ہم قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں لوگوں کیلئے ہدایت ہے۔

الدَّرْسُ الثَّانِي

الْإِحْسَانُ

عَبْدُ الْحَمِيدِ وَنَدُّ طَيِّبٌ يَحْتَرِمُ النَّاسَ وَيُسَاعِدُ
أَصْدِقَاءَهُ-

كَانَ عَبْدُ الْحَمِيدِ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ يَوْمًا فَرَأَى فِي
الطَّرِيقِ شَيْخًا ضَعِيفًا قَدْ عَجَزَ عَنِ الْعَمَلِ-

سَلَّمَ عَبْدُ الْحَمِيدِ عَلَى الشَّيْخِ وَقَالَ لَهُ: يَا جَدِّي! كَيْفَ
حَالُكَ؟ أَجَابَ الشَّيْخُ: أَنَا رَجُلٌ عَاجِزٌ لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ
أَعْمَلَ-

رَقَّ قَلْبُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَلَى جَوَابِ الشَّيْخِ فَرَحِمَهُ وَأَعْطَاهُ
خَمْسَ رُوبِيَّاتٍ- أَخَذَ الشَّيْخُ النُّقُودَ وَدَعَا لَهُ بِالْخَيْرِ
وَالْبَرَكَاتِ-

لَمَّا رَجَعَ عَبْدُ الْحَمِيدِ إِلَى بَيْتِهِ أَخْبَرَ وَالِدَهُ بِذَلِكَ فَفَرِحَ
بِهِ وَأَعْطَاهُ عَشْرَ رُوبِيَّاتٍ-

تمرین

۱۔ ”كَيْفَ حَالُكَ؟“ کی ترکیب کریں۔

۲۔ ”اِحْتَرَمَ“ سے مضارع اور امر بنائیں۔

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

زاهد لوگوں کا احترام کرتا ہے۔

میں اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں۔

میں نے رستہ میں ایک بوڑھا آدمی دیکھا۔

وہ کام کرنے سے عاجز تھا۔

میں نے اپنے بھائی کو سلام کیا۔

میں نے فقیر پر رحم کیا۔

میں نے محتاج کو نو روپے دیئے۔

فقیر نے میرے لئے دعا کی۔

فقیروں کی مدد کرو۔

بوڑھا آدمی کام نہیں کر سکتا۔

الدَّرْسُ الثَّالِثُ

سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

كَانَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ -

وُلِدَ بِمَكَّةَ وَنَشَأَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ

أَسْلَمَ مِنَ الْأَطْفَالِ - كَانَ يُرَافِقُ النَّبِيَّ ﷺ - دَائِمًا -

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَجْرَةَ إِلَى الْمَدِينَةِ نَامَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ النَّبِيِّ ﷺ - وَجَاءَ الْكُفَّارُ وَسَأَلُوهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ لَهُمْ: لَا أَدْرِي شَيْئًا عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ ﷺ - إِذْهَبُوا -

كَانَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شُجَاعًا لَا يَخَافُ الْمَوْتَ -

إِشْتَرَكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْغَزَوَاتِ وَقَتَلَ كَثِيرًا مِّنَ الْكُفَّارِ -

كَانَ سَيِّدُنَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَمِّ الرَّسُولِ

ﷺ - وَزَوْجًا لِبِنْتِهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- أَيْنَ نَشَأُ ؟ أَيْنَ وُلِدَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟
 هَلْ كَانَ شُجَاعًا ؟ مَاذَا فَعَلَ فِي لَيْلَةِ الْهَجْرَةِ ؟
 هَلْ اشْتَرِكَ فِي الْغَزَوَاتِ ؟

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے۔

آپ نبی کریم ﷺ کے بچاؤ بھائی تھے۔

آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔

پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

آپ نے خیبر فتح کیا۔

آپ بہت سے غزوات میں شریک ہوئے۔

آپ نے بہت سے کفار کو قتل کیا۔

آپ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔

آپ نے مر حب کو قتل کیا۔

حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آپ کے بیٹے ہیں۔

الدَّرْسُ الرَّابِعُ

يَوْمُ الْعِيدِ

يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمُ الْفَرَحَةِ وَالسُّرُورِ-

النَّاسُ يَسْتَيْقِظُونَ مُبَكَّرِينَ وَيَغْتَسِلُونَ وَيَلْبَسُونَ الْمَلَابِسَ
الْجَدِيدَةَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ- فِي الطَّرِيقِ يُكَبِّرُونَ
اللَّهَ وَ يَحْمَدُونَهُ- بَعْدَ الصَّلَاةِ يُعَانِقُونَ وَيَذْهَبُونَ لِزِيَارَةِ
الْأَقْرَابِ وَالْأَصْدِقَاءِ-

الْأَطْفَالُ يَفْرَحُونَ يَوْمَ الْعِيدِ- يَلْبَسُونَ الْمَلَابِسَ الْجَمِيلَةَ
وَيَأْخُذُونَ الْعِيدِيَّةَ وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْحَدَائِقِ يَلْعَبُونَ
وَيَفْرَحُونَ-

فِي السَّنَةِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ: عِيدُ الْفِطْرِ وَهُوَ يَأْتِي بَعْدَ

رَمَضَانَ وَعِيدُ الْأَضْحَى وَهُوَ يَأْتِي فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ-

تمرین

۱۔ مفرد لائیں۔

الملايس - الحقائق - الأطفال - الأصدقاء - المسلمون -

۲۔ جملوں میں استعمال کریں۔

يَوْمُ العید - الطريق - الملايس - العیدية - عید الفطر -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

عید خوشی اور مسرت کا دن ہے۔

ہم عید کے دن صبح سویرے اٹھتے ہیں۔

غسل کے بعد نئے کپڑے پہنتے ہیں۔

اور عید کی نماز کیلئے جاتے ہیں۔

نماز عید کے بعد ہم گلے ملتے ہیں۔

بچے عیدی لیتے ہیں۔

بچے عید کے دن خوش ہوتے ہیں۔

عید کے دن ہم فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔

سال میں دو عیدیں ہیں۔

عید کے دن میں اپنے دوست کے گھر گیا۔

الدَّرْسُ الْخَامِسُ

صَدِيقُ الْفَلَّاحِ

الْكَلْبُ صَدِيقُ الْفَلَّاحِ يَحْرُسُ دَارَهُ فِي اللَّيْلِ وَيَمْنَعُ
اللُّصُوفَ عَنِ الدُّخُولِ فِي الدَّارِ - وَفِي النَّهَارِ يَذْهَبُ الْكَلْبُ
مَعَ الْفَلَّاحِ إِلَى الْحَقْلِ وَيُحَافِظُ عَلَى الْمَاشِيَةِ -

لَوْنُ الْكَلْبِ أَبْيَضٌ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ وَأَرْجُلُهُ طَوِيلَةٌ
وَرَأْسُهُ كَبِيرٌ - وَهُوَ يَمْشِي وَرَاءَ الْفَلَّاحِ دَائِمًا - إِذَا يَقْعُدُ
الْفَلَّاحُ يَلْعَبُ الْكَلْبُ مَعَهُ وَإِذَا جَاعَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رِجْلِ
الْفَلَّاحِ وَفَتَحَ فَاهَ -

يَرْمِي إِلَيْهِ الْفَلَّاحُ قِطْعَةً خُبْزٍ ، يَأْخُذُهَا الْكَلْبُ وَيَأْكُلُهَا

مُسْرِعًا -

الْكَلْبُ حَيَوَانٌ وَفِيَّ يُرَافِقُ دَائِمًا صَاحِبَهُ -

تمرین

۱۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

الكلبُ۔۔ النهارُ۔۔ الفلاحُ۔۔ الحقلُ۔۔ الخبزُ۔

۲۔ مندرجہ ذیل افعال سے ماضی بنائیں۔

يحرُسُ۔۔ يمنعُ۔۔ يحاوِظُ۔۔ يلعبُ۔۔ يأخذُ۔

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

کتابوفاو ار جانور ہے۔

یہ کسان کا دوست ہے۔

کتابسان کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔

بٹی کتے سے ڈرتی ہے۔

کتے کا رنگ سیاہ ہے۔

کتابپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے۔

کتابسان کے ساتھ کھیلتا ہے۔

کتے کے بال لمبے ہیں۔

کتابتیز بھاگتا ہے۔

وہ روٹی کھاتا ہے۔

الدَّرْسُ السَّادِسُ

الْعَمَلُ

إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ طَلَعَ النَّهَارُ وَظَهَرَ الصُّبْحُ - يَسْتَيْقِظُ
النَّاسُ صَبَاحًا وَتَظْهَرُ الْحَرَكََةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَيَشْتَغِلُ كُلُّ
وَاحِدٍ فِي عَمَلِهِ -

التَّلْمِيذُ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ وَيَجْتَهِدُ فِي حُصُولِ الْعِلْمِ -
وَالْفَلَّاحُ يَذْهَبُ إِلَى حَقْلِهِ وَيَحْرُثُ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُ فِيهَا
الْقَمْحَ - وَالصَّانِعُ يَذْهَبُ إِلَى الْمَصْنَعِ وَالتَّاجِرُ إِلَى مَحَلِّ
تِجَارَتِهِ - وَالطَّيِّبُ يَذْهَبُ إِلَى الْمُسْتَشْفَى -

إِذَا أَتَى اللَّيْلُ عَادَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى بَيْتِهِ لِيُرِيحَ نَفْسَهُ مِنْ

تَعَبِ الْعَمَلِ -

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

يَسْتَيْقِظُ.....صَبَاحًا - التَّلْمِيذُ يَذْهَبُ.....

الصَّانِعُ.....إِلَى الْمَصْنَعِ - الفَلَّاحُ.....الأَرْضَ

إِذَا.....الشَّمْسُ طَلَعَتْ.....

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔

لوگ صبح کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں۔

میں صبح کے وقت اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں۔

طالب علم مسجد کی طرف جاتا ہے۔

خالد حصول علم میں کوشش کرتا ہے۔

کسان کھیتوں کی طرف جاتا ہے۔

میں زمین میں ہل چلاتا ہوں۔

ڈاکٹر ہسپتال جاتا ہے۔

شام کے وقت میں گھر لوٹتا ہوں۔

نماز عشاء کے بعد میں سو جاتا ہوں۔

الدَّرْسُ السَّابِعُ

الْمَسْجِدُ

الْمَسْجِدُ بَيْتُ اللَّهِ -

يَجْتَمِعُ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَيُصَلُّونَ -

يَذْهَبُ وَالِدِي كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي -

يَوْمًا ذَهَبْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوَّلًا تَوَضَّأْنَا ثُمَّ

صَلَّيْنَا مَعَ الْجَمَاعَةِ -

يَشْتَمِلُ الْمَسْجِدُ عَلَى غُرْفَةٍ كَبِيرَةٍ وَسَاحَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَهَا

قُبَّةٌ وَمِعْدَنَتَانِ -

الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ قَبْلَ الصَّلَاةِ - النَّاسُ يَسْمَعُونَ الْأَذَانَ

وَيَأْتُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ - وَالْإِمَامُ يُصَلِّي بِهِمْ -

بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَتْلُو النَّاسُ الْقُرْآنَ وَيَتَعَلَّمُهُ الْأَطْفَالُ -

تمرین

۱۔ مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کریں۔

أَنَا نُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ - هُمْ يَأْتِي إِلَى الْمَسْجِدِ -

أَتَوَضَّأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ - هُوَ تَذَهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِيهَا

رَأَيْتُ مِثْلَهُنَّ -

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

یہ بڑی مسجد ہے۔

لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔

کیا تم نماز پڑھتے ہو؟

نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ہم مسجد کا احترام کرتے ہیں۔

ہم مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔

مؤذن اذان دیتا ہے۔

ہماری مسجد کا مؤذن نیک آدمی ہے۔

بچے مسجد میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔

مسجد اللہ کا گھر ہے۔

الدَّرْسُ الثَّامِنُ

2

الرَّسَالَةُ

أحمد: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا يُوسُفُ! مَاذَا تَعْمَلُ الْآنَ ؟

يُوسُفُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ- أَنَا أَكْتُبُ

رِسَالَةً إِلَى أَخِي-

أحمد: هَلْ أَنْتَ تَعْرِفُ كِتَابَةَ الرِّسَائِلِ وَأَنْتَ صَغِيرٌ ؟

يوسف: تَعَلَّمْتُ كِتَابَةَ الرِّسَائِلِ فِي الْمَدْرَسَةِ- وَالْكِتَابَةُ

سَهْلَةٌ- لَا أَكْتُبُ كَلَامًا كَثِيرًا- خذِ الرَّسَالَةَ وَاقْرَأْهَا-

أحمد: أَشْكُرُكَ- اسْتَمِعْ وَأَنَا أَقْرَأُ-

أَخِي وَعَزِيزِي!

مَا رَأَيْتَكَ مِنْ أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ فَمَتَى تَحْضُرُ ؟ وَأَنَا مُشْتَاقٌ إِلَى

لِقَائِكَ فَتَعَالَ بِسُرْعَةٍ- الْأَبُ وَالْأُمُّ بِخَيْرٍ وَيُسَلِّمَانِ عَلَيْكَ-

وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ بِخَيْرٍ-

أخوكُ

يُوسُفُ

تمرین

۱۔ ”اسْتَمَعَ“ سے مضارع، امر اور نہی بنائیں۔

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

کیا تو خط لکھ سکتا ہے؟

ہاں، میں خط لکھ سکتا ہوں۔

قلم کے ساتھ لکھو۔

تو خط پڑھ۔

یہ خط کس کا ہے؟

یہ خط حامد کا ہے۔

میں نے خط لکھنا سیکھ لیا ہے۔

میں نے اپنے والد صاحب کو خط لکھا۔

میں نے کئی دنوں سے تمہیں نہیں دیکھا۔

امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔

الدَّرْسُ التَّاسِعُ

السَّفَرُ

قَالَ أَبُو لَإِبْنِهِ خَالِدٍ: يَا بُنَيَّ! إِذَا تَنَجَّحَ فِي الإِمْتِحَانِ
تَذَهَبُ مَعِيَ إِلَى "كَأْغَانَ" -

لَمَّا سَمِعَ خَالِدٌ هَذَا فَرِحَ فَرِحًا شَدِيدًا وَاجْتَهَدَ فِي

حِفْظِ الدَّرُوسِ حَتَّى نَجَحَ فِي الإِمْتِحَانِ -

ذَهَبَ إِلَى أَبِيهِ مَسْرُورًا وَذَكَرَهُ بِوَعْدِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ:

يَا بُنَيَّ! اسْتَعِدَّ لِلسَّفَرِ نَحْنُ نُسَافِرُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ -

فِي صَبَاحِ الغَدِ وَصَلَ إِلَى مَوْقِفِ الحَافِلَاتِ - اشْتَرَى

أَبُوهُ تَذَكِيرَتَيْنِ وَرَكِبَا الحَافِلَةَ - بَعْدَ عَشْرِ سَاعَاتٍ وَصَلَا إِلَى

كَأْغَانَ - فَشَاهَدَا هُنَاكَ المَنَاطِرَ الجَمِيلَةَ وَالجِبَالَ الشَّامِخَةَ -

تمرین

۱۔ جملوں میں استعمال کریں۔

الامتحانُ - الدروس - السفر - الحافلة - الموقف -

۲۔ مفرد بتائیں۔

دُروس - يَنْفِرَتَانِ - حافلات - مَنَاطِرُ - جِبَالُ -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

میں نے گاڑی کا ٹکٹ خریدا۔

پھر گاڑی پر سوار ہوا۔

کیا آپ بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں؟

امتحان قریب ہے۔

میں محنت کر رہا ہوں۔

میں انشاء اللہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا۔

جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔

میں امتحان کے بعد مری جاؤں گا۔

مری میں خوبصورت پہاڑ ہیں۔

پہاڑوں پر برف ہے۔

الدَّرْسُ العَاشِرُ

عِيَادَةُ المَرِيضِ

ذَهَبَ نَجِيبٌ إِلَى المَدْرَسَةِ لَمَّا دَخَلَ فِي الفَصْلِ لَمْ
يَجِدْ هُنَاكَ صَدِيقَهُ سَمِيرًا - فَسَأَلَ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ أَحَدُ أَصْدِقَائِهِ
بَأَنَّهُ مَرِيضٌ -

لَمَّا فَرَغَ مِنَ الدُّرُوسِ ذَهَبَ لِعِيَادَةِ صَدِيقِهِ - لَمَّا دَخَلَ
فِي بَيْتِ صَدِيقِهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ: كَيْفَ حَالُكَ يَا
صَدِيقِي؟

قَالَ صَدِيقُهُ: أَصَابَتْنِي بِالْأَمْسِ الحُمَّى - ذَهَبْتُ إِلَى
الطَّبِيبِ وَأَخَذْتُ مِنْهُ الدَّوَاءَ - وَالآنَ قَدْ تَحَسَّنَتْ صِحَّتِي
شَيْئًا - سَاعُودٌ إِلَى المَدْرَسَةِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ إِنْ شَاءَ اللهُ -

قَالَ نَجِيبٌ: شَفَاكَ اللهُ! الْآنَ أَسْتَأْذِنُ مِنْكَ -

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

مَنْ كَانَ مَرِيضًا ؟

كَيْفَ عَلِمَ نَجِيبٌ أَنَّ صَدِيقَهُ مَرِيضٌ ؟

مَتَى ذَهَبَ لِعِيَادَتِهِ ؟

مَاذَا أَصَابَهُ ؟

هَلْ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ ؟

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

میرے چچا جان بیمار تھے۔

انہیں بخار ہو گیا۔

میں ان کی عیادت کیلئے گیا۔

میں نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا۔

انہوں نے کہا مجھے بخار ہو گیا تھا۔

اب میری صحت اچھی ہے۔

میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔

اس نے مجھے دوائی دی۔

مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے!

الدَّرْسُ الحَادِي عَشَرَ

السَّاعَةُ

عِنْدِي سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ اشْتَرَاهَا لِي أَبِي عِنْدَمَا نَجَحْتُ فِي
الْإِمْتِحَانِ -

السَّاعَةُ مُفِيدَةٌ جَدًّا - أَعْرِفُ بِهَا الْوَقْتَ وَأَذْهَبُ إِلَى
الْمَدْرَسَةِ فِي الْوَقْتِ - وَكَذَلِكَ أَعْرِفُ بِهَا أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ
وَالطَّعَامِ وَالنُّوْمِ -

فِي السَّاعَةِ ثَلَاثَةُ عَقَارِبَ: عَقْرَبٌ كَبِيرٌ وَهُوَ يُبَيِّنُ
الدَّقَائِقَ وَعَقْرَبٌ صَغِيرٌ وَهُوَ يُبَيِّنُ السَّاعَاتِ وَعَقْرَبٌ ثَالِثٌ
يَدُورُ مَرَّةً كُلَّ دَقِيقَةٍ وَهُوَ يَعُدُّ الثَّوَانِي -

أَنَا أَحِبُّ سَاعَتِي وَأَحَافِظُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ -

تمرین

۱۔ مندرجہ ذیل کلمات کو جملوں میں استعمال کریں۔

السَّاعَة - الوقت - عَقْرَبٌ - دَقِيقَةٌ - النوم -

۲۔ مفرد سے جمع اور جمع سے مفرد بنائیں۔

ساعة - دقائق - عقرب - وقت - الثوانی -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

یہ میری گھڑی ہے۔

تمہاری گھڑی کہاں ہے؟

میرے والد صاحب کے پاس نئی گھڑی ہے۔

انہوں نے آج اسے بازار سے خریدا۔

اس کی قیمت ہزار روپیہ ہے۔

میں گھڑی کے ساتھ وقت پہچانتا ہوں۔

میری گھڑی قیمتی ہے۔

کیا آپ کی گھڑی نئی ہے؟

ایک گھنٹہ میں ساٹھ منٹ ہیں۔

میں اپنی گھڑی کی حفاظت کرتا ہوں۔

الدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ

الْأَكْلُ

نَأْكُلُ لِنَعِيشَ وَنَقْدِرُ عَلَى الْعَمَلِ-

نَأْكُلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ-

يَكُونُ الطَّعَامُ لَذِيذًا وَقَتَ الْجُوعِ-

كُلْ وَلَا تَمَلْأْ مَعِدَتَكَ بِالطَّعَامِ وَأَمْضِغِ الطَّعَامَ جَيِّدًا-

الْأَكْلُ بِالسَّرْعَةِ يُفْسِدُ الْمَعِدَةَ-

إِذَا صَحَّتِ الْمَعِدَةُ قَوِيَتِ الصِّحَّةُ-

إِذَا ضَعُفَتِ الْمَعِدَةُ مَرِضَ الْإِنْسَانُ-

نَظَّفْ أَسْنَانَكَ وَيَدَيْكَ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ-

كُلِ الطَّعَامَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ-

لَا تَنْمَ عَقِبَ الْأَكْلِ-

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

.....لِنَعِيشَ - نَاكِلُ..... فِی الْیَوْمِ - لَا تَمَلُّ..... بِالطَّعَامِ -

كُلِ الطَّعَامَ..... - لَا تَنَمُّ..... الْأَكْلِ -

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

کھانا زندگی کیلئے ضروری ہے۔

میں دن میں دو مرتبہ کھاتا ہوں۔

بھوک کے وقت کھانا لذیذ ہوتا ہے۔

کھانے کو خوب چباؤ۔

کھانے کے بعد پانی نہ پیو۔

جب معدہ کمزور ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔

کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کرو۔

ضرورت کے مطابق کھانا کھاؤ۔

میں کھانے کے بعد نہیں سوتا۔

کیا کھانا مزیدار ہے؟

الدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ

الصَّدِيقَانِ

سَاجِدٌ وَحَامِدٌ كِلَاهُمَا صَدِيقَانِ وَيَدْرُسَانِ فِي صَفٍّ
وَاحِدٍ-

يَوْمًا أَرَادَ سَاجِدٌ أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ - فَحَزِنَ
حُزْنًا شَدِيدًا - فَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ حَامِدٍ-

قَالَ لَهُ حَامِدٌ: تَعَالَ يَا صَدِيقِي! اجْلِسْ - نَشْرَبُ الشَّايَ
مَعًا وَنَتَحَدَّثُ-

قَالَ سَاجِدٌ: شُكْرًا - لَا أَجْلِسُ عِنْدَكَ الْيَوْمَ لِأَنِّي لَمْ
أَحْفَظِ الدَّرْسَ حَتَّى الْآنِ وَقَدْ ضَاعَ مِنِّي الْكِتَابُ - وَأُرِيدُ أَنْ
تُعْطِيَنِي كِتَابَكَ وَأَرُدَّهُ بَعْدَ حِفْظِ الدَّرْسِ-

أَعْطَاهُ حَامِدٌ كِتَابَهُ وَقَالَ لَهُ: خُذِ الْكِتَابَ وَاحْفَظْ

الدَّرْسَ-

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

يَذْرُؤَانِ فِي..... - أَرَادَ سَاجِدٌ..... كِتَابَهُ - لَمْ أَحْفَظْ.....

لَا أَجْلِسُ..... الْيَوْمَ - أَرُدُّ الْكِتَابَ بَعْدَ.....

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

صدیق اور حمید دونوں دوست ہیں۔

وہ (دونوں) ایک مدرسہ میں پڑھتے ہیں۔

وہ اکٹھے سکول جاتے ہیں۔

وہ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔

وہ اپنی کتاب پڑھتا ہے۔

میری کتاب کہاں ہے؟

ہم چائے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔

آؤ بازار چلیں۔

میری کتاب گم ہو گئی ہے۔

میں سبق یاد کرنے کے بعد کتاب واپس کر دوں گا۔

الدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ

الْفَوَاكِهُ

الْفَوَاكِهُ حُلْوَةٌ لَذِيذَةٌ وَهِيَ مُفِيدَةٌ لِلْجِسْمِ-

تُوجَدُ فِي بَاكِسْتَانِ فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ تُزْرَعُ بَعْضُهَا

فِي الصَّيْفِ وَبَعْضُهَا فِي الشِّتَاءِ-

أَنَا أَحِبُّ الْمَانْجُو مِنَ الْفَوَاكِهِ-

اشْتَرَى لَنَا أَبُوْنَا الْبَطِيخَ وَالشَّمَامَ-

فِي حَدِيقَةِ بَيْتِنَا أَشْجَارُ الْبُرْتُقَالِ-

أُحِبُّ تَجِبُ عَصِيرِ الْبُرْتُقَالِ-

الْعِنْبُ مِنْ فَوَاكِهِ الصَّيْفِ وَلَهُ أَنْوَاعٌ-

يُحِبُّ صَدِيقِي الْخَوْخَ وَالتَّيْنَ وَالْبُرْقُوقَ-

يُصْنَعُ مِنَ الْفَوَاكِهِ الْعَصِيرُ وَالْمُرَبِّي-

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

هَلِ الْفَوَاكِهُ مُفِيدَةٌ؟

مَاذَا تُحِبُّ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟

هَلِ تُحِبُّ عَصِيرَ الْبَرْتَقَالِ؟

فِي أَيِّ فَصْلِ يُوجَدُ الشَّمَامُ؟

مَاذَا يُصْنَعُ مِنَ الْفَوَاكِهِ؟

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

پھل صحت کے لئے مفید ہیں۔

پاکستان میں بہت سے پھل پائے جاتے ہیں۔

سیب مرنگا پھل ہے۔

مالٹا سستا ہے۔

میں آم پسند کرتا ہوں۔

میرا بھائی انجیر پسند کرتا ہے۔

باغ میں کیلے کے درخت ہیں۔

کیا تو آلو بخارا پسند کرتا ہے؟

میں نے انگور اور آڑو خریدے۔

پھلوں سے جوس اور جام بنایا جاتا ہے۔

الدَّرْسُ الْخَامِسُ عَشَرَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ

نَفِيسَةٌ تَدْرُسُ فِي الصَّفِّ الثَّانِيِّ وَأَخُوهَا رَاشِدٌ يَدْرُسُ فِي
الصَّفِّ الرَّابِعِ وَأَبُوهُمَا مُعَلِّمٌ فِي الْمَدْرَسَةِ وَأُمُّهُمَا تَعْمَلُ
فِي الْبَيْتِ -

بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَخْرُجُ رَاشِدٌ مَعَ أَبِيهِ لِنُزْهَةِ الصَّبَاحِ
وَنَفِيسَةٌ تُسَاعِدُ أُمَّهَا فِي إِعْدَادِ الْفُطُورِ -

رَاشِدٌ وَنَفِيسَةٌ تَلْمِيزَانِ مُهَذَّبَانِ يَذْهَبَانِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ عَلَى
الْوَقْتِ وَيُسَلِّمَانِ عَلَى الْأَسَاتِذَةِ بِأَدَبٍ وَلَا يُضِيعَانِ
وَقْتَهُمَا - يُحَافِظَانِ عَلَى كُتُبِهِمَا - يُطِيعَانِ وَيُكْرِمَانِ
وَالِدَيْهِمَا - وَالْأَسَاتِذَةَ يُحِبُّونَهُمَا -

بَعْدَ الْعَصْرِ يَلْعَبُ رَاشِدٌ مَعَ أَوْصِدْقَائِهِ كُرَةَ الْقَدَمِ وَنَفِيسَةٌ
تَلْعَبُ فِي الْبَيْتِ بِالْأَلْمِيَّةِ -

تمرین

۱۔ جملوں میں استعمال کریں۔

الصف الثانی - تعمل - نزهة الصباح - تساعد - الفطور

۲۔ ماضی بنائیں۔

یدرس - يعمل - أساعد - يذهبان - يُحبون -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

طاہرہ تیسری کلاس میں پڑھتی ہے۔

اس کا بھائی پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے۔

وہ بہت مہنتی ہے۔

اس کا والد ڈاکٹر ہے۔

اس کی والدہ استانی ہے۔

میں وقت پر سکول جاتا ہوں۔

کیا ٹوفٹ بال کھیلتا ہے؟

وہ گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے۔

وہ اپنے والدین کا احترام کرتی ہے۔

وہ اپنے اساتذہ کی عزت کرتی ہے۔

الدَّرْسُ السَّادِسُ عَشَرَ

الْهَوَاءُ

الْهَوَاءُ ضَرْوْرِيٌّ لِلْحَيَاةِ -

لَا يَسْتَطِيعُ إِنْسَانٌ أَوْ حَيَوَانٌ أَنْ يَعْيشَ بِدُونِ الْهَوَاءِ -

إِذَا كَانَ الْهَوَاءُ نَظِيفًا نَقِيًّا كَانَ مُفِيدًا لِلصَّحَّةِ - وَإِذَا كَانَ

فَاسِدًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ الصَّحَّةَ وَيُضْعِفُ الْجِسْمَ وَيُسَبِّبُ

الْأَمْرَاضَ -

فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ انْتَشَرَتِ الْأَمْرَاضُ الْكَثِيرَةُ لِأَنَّ الْهَوَاءَ

فَاسِدٌ بِسَبَبِ دُخَانِ السِّيَّارَاتِ وَالْمَصْنَعِ -

وَيَكُونُ الْهَوَاءُ نَقِيًّا فِي الْحُقُولِ وَالْحَدَائِقِ وَعَلَى الْجِبَالِ -

الْهَوَاءُ نِعْمَةٌ مِّنْ نِّعَمِ اللَّهِ أَعْطَانَا اللَّهُ هَذِهِ النِّعْمَةَ بِدُونِ

عَوَضٍ -

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

هَلِ الْهَوَاءُ ضَرُورِيٌّ لِلْحَيَاةِ؟

هَلْ يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَعِيشَ بِدُونِ الْهَوَاءِ؟

لِمَ انْتَشَرَتِ الْأَمْرَاضُ؟

أَيْنَ يَكُونُ الْهَوَاءُ نَقِيًّا؟

مَاذَا يُسَبِّبُ الْهَوَاءُ الْفَاسِدُ؟

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

پانی زندگی کیلئے ضروری ہے۔

انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

صاف پانی صحت کیلئے مفید ہے۔

صاف پانی پیو۔

پانی اللہ کی نعمت ہے۔

پہاڑ پر ٹھنڈا پانی ہے۔

گاڑیوں کا دھواں ہو اکو خراب کرتا ہے۔

پہاڑوں پر ہوا صاف ہوتی ہے۔

کارخانوں کا دھواں امراض کا سبب بنتا ہے۔

دھوئیں سے بچو۔

الدَّرْسُ السَّابِعُ عَشَرَ

وَطَنُنَا

وَطَنُنَا بَاكِسْتَانُ - نَحْنُ نَسْكُنُ فِي وَطَنِنَا - بَاكِسْتَانُ بَلَدٌ
 إِسْلَامِيٌّ يَسْكُنُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ - الْمُسْلِمُونَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ
 وَحَدَهُ وَيَعْمَلُونَ أَعْمَالًا صَالِحَةً -

فِي بَاكِسْتَانِ جِبَالٌ شَامِخَةٌ وَأَنْهَارٌ جَارِيَةٌ - قَدْ أَعْطَانَا
 اللَّهُ كُلَّ نِعْمَةٍ -

يَسْكُنُ مُعْظَمُ النَّاسِ فِي الْقُرَى وَيَشْتَغِلُونَ بِالزَّرَاعَةِ
 وَيَسْكُنُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْمُدُنِ -

نَحْنُ نُحِبُّ وَطَنَنَا وَنُحِبُّ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَاكِسْتَانِ - نَحْنُ
 نَجْتَهِدُ فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ - وَنَحْنُ نَرْفَعُ شَأْنَ وَطَنِنَا -

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔
 نَحْنُ..... فی وطننا۔ پاکستان..... اسلامیؑ۔
 المسلمون..... اللہ۔ فی پاکستان..... نَحْنُ نَرَفَعُ.....
 وَطَننا۔

۲۔ عربی میں ترجمہ کریں۔
 پاکستان ہمارا وطن ہے۔
 پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔
 پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔
 پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں۔
 ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کو پسند کرتا ہے۔
 پاکستان میں بلند و بالا پہاڑ ہیں۔
 پاکستانی کسان گندم کاشت کرتا ہے۔
 پاکستانی مزدور محنت سے کام کرتا ہے۔
 ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔

الدَّرْسُ الثَّامِنُ عَشَرَ

الْحُرِّيَّةُ

كَانَ خَالِدٌ يَلْعَبُ يَوْمًا تَحْتَ شَجَرَةٍ فَسَقَطَتْ عُصْفُورَةٌ
 أَمَامَ خَالِدٍ- صَاحَ خَالِدٌ: عُصْفُورَةٌ! عُصْفُورَةٌ! فَأَمْسَكَ
 الْعُصْفُورَةَ وَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ وَقَالَ: أُمِّي! عُصْفُورَةٌ جَمِيلَةٌ هَلْ
 عِنْدَكَ قَفْصٌ؟ قَالَتِ الْأُمُّ: قَفْصٌ؟ أَتُحِبُّ يَا خَالِدُ أَنْ يَحْبِسَكَ
 أَحَدٌ؟

فَكَرَّ خَالِدٌ فِي قَوْلِ أُمِّهِ وَرَجَعَ إِلَى الشَّجَرَةِ وَأَطْلَقَ
 الْعُصْفُورَةَ- فَطَارَتِ الْعُصْفُورَةُ وَجَعَلَتْ تُغَرِّدُ-

ثُمَّ رَجَعَ خَالِدٌ إِلَى أُمِّهِ وَأَخْبَرَهَا بِمَا فَعَلَ- فَرِحَتِ الْأُمُّ
 بِمَا فَعَلَ خَالِدٌ وَقَالَتْ: إِنَّ الْحُرِّيَّةَ يُحِبُّهَا الْجَمِيعُ: يُحِبُّهَا
 الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَالْوَحْشُ فِي الْغَابَةِ وَالْإِنْسَانُ فِي الْبِلَادِ-

تمرین

۱۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔

الحریة - قفص - الشجرة - الأم - الطیر -

۲۔ مضارع لائیں۔

صاح - قالت - رجع - أخبر - أطلق -

۳۔ عربی میں ترجمہ کریں۔

آزادی نعمت ہے۔

ہر شخص آزادی کو پسند کرتا ہے۔

غلامی لعنت ہے۔

غلام کا احترام نہیں کیا جاتا۔

ایک چڑیا درخت سے گری۔

خالد نے اسے پکڑ لیا۔

اس نے چڑیا کو پنجرے میں بند کر دیا۔

کیا تو پسند کرتا ہے کہ تمہیں کوئی قید کرے؟

خالد نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔

چڑیا چھمانے لگی۔

الدَّرْسُ التَّاسِعُ عَشَرَ

الْأَلْغَازُ

- ١- يَزْرَعُ الْأَرْضَ وَيَسْقِيهَا- مَنْ هُوَ ؟
- ٢- يَرْكَبُهَا النَّاسُ وَتَسِيرُ عَلَى الْمَاءِ- مَا هِيَ ؟
- ٣- يَمْشِي عَلَى قَضِيبٍ مِنَ الْحَدِيدِ- مَا هُوَ ؟
- ٤- يَجْرُ الْعَرَبَاتِ وَنَرَكَبُهُ- مَا هُوَ ؟
- ٥- يَرْكَبُهَا النَّاسُ وَتَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ- مَا هِيَ ؟
- ٦- رَقَبَتُهُ طَوِيلَةٌ وَلَهُ سَنَامٌ كَبِيرٌ- مَا هُوَ ؟
- ٧- جِسْمُهُ كَبِيرٌ وَلَهُ خُرْطُومٌ طَوِيلٌ- مَا هُوَ ؟
- ٨- وَلَدَتْنِي وَأَرْضَعَتْنِي- مَنْ هِيَ ؟
- ٩- يَحْرُسُ الْمَنَازِلَ وَيَعُضُّ اللَّصُوصَ ؟ مَا هُوَ ؟
- ١٠- يَحْرُسُ الْمَنَازِلَ وَمَعَهُ بُنْدُقِيَّةٌ- مَنْ هُوَ ؟
- ١١- تَصِيدُ الْفِرَّانَ وَلَهَا ذَيْلٌ طَوِيلٌ ؟ مَا هِيَ ؟

١٢- مَصْنُوعٌ مِنَ الْخَشَبِ وَنَجِسٌ عَلَيْهِ- مَا هُوَ ؟

١٣- مَصْنُوعٌ مِنَ الْخَشَبِ وَنَنَامُ فَوْقَهُ- مَا هُوَ ؟

١٤- لَهَا رَيْشٌ وَتَعُومُ عَلَى الْمَاءِ- مَا هِيَ ؟

(١) الفلاح (٢) السفينة (٣) القطار

(٤) الحصان (٥) الطائرة (٦) الجمل

(٧) الفيل (٨) أمي (٩) الكلب

(١٠) الحارس (١١) القطة (١٢) الكرسي

(١٣) السرير (١٤) الإوزة-

الدَّرْسُ العِشْرُونَ

الْأَنَاشِيدُ

(١) أَنَا أُصَلِّيُ

أَنَا أُصَلِّيُ أَنَا أَكْبَرُ
 لِلَّهِ رَبِّي أَدْعُوهُ وَأَشْكُرُهُ
 فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ
 اللَّهُ رَبِّي فِي الْقَلْبِ وَحَدَهُ
 أَنَا أُصَلِّيُ لِلَّهِ خَمْسًا
 فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَسْتُ أَنْسَى

(٢) رَمَضَانُ

أَهْلًا أَهْلًا يَا رَمَضَانُ
 شَهْرَ الصَّوْمِ وَالْإِحْسَانِ
 شَهْرَ الصَّوْمِ وَالْحَسَنَاتِ
 شَهْرَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ

الدَّرْسُ الحَادِي والعَشْرُونَ

اسْتِفْهَامٌ

مَا اسْمُكَ؟	اسْمِي مَنْصُورٌ
فِي أَيِّ فَصْلِ أَنْتَ؟	أَنَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ
أَيْنَ تَسْكُنُ؟	أَسْكُنُ فِي إِسْلَامَآبَادِ
مَنْ هَذَا؟	هَذَا صَدِيقِي عَبْدُ اللَّهِ
مَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟	أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ
مَاذَا تَقْرَأُ؟	أَقْرَأُ كِتَابَ تَسْهِيلِ الْإِنشَاءِ
هَلْ تَنَاوَلْتَ الْفُطُورَ؟	نَعَمْ، تَنَاوَلْتُ الْفُطُورَ
أَفِي الْمَكْتَبَةِ طُلَّابٌ؟	لَا، بَلْ فِي الْمَكْتَبَةِ مُعَلِّمُونَ
كَمْ مُعَلِّمًا فِي دَارِ الْعُلُومِ؟	فِي دَارِ الْعُلُومِ عِشْرُونَ مُعَلِّمًا
مَا هَذَا؟	هَذَا كِتَابٌ
مَا هَذِهِ؟	هَذِهِ مِسْطَرَّةٌ

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

۱۔ کَمُ أَخَا لَكَ؟

۲۔ أَيْنَ تَسْكُنُ؟

۳۔ أَعِنْدَكَ قَلَمٌ؟

۴۔ مَنْ عِنْدَكَ؟

۵۔ هَلْ جِذَائِكَ جَدِيدٌ؟

۶۔ مَاذَا فِي يَدِكَ؟

۷۔ هَلْ شَرِبْتَ عَصِيرَ الْبُرْتُقَالِ؟

۸۔ فِي أَيِّ سَاعَةٍ تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟

۹۔ مَتَى يَرْجِعُ أَبُوكَ مِنْ كَرَاتَشِي؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ موسم سرما کب آئے گا؟

۲۔ تمہارے بھائی کا کیا نام ہے؟

۳۔ تم کون ہو؟

۴۔ کیا وہ سکول پڑھتا ہے؟

۵۔ تم کہاں تھے؟

۶۔ مدرسہ میں کتنے لڑکے ہیں؟

۷۔ کیا آپ کا والد انجینئر ہے؟

۸۔ نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر ہے۔

۹۔ آپ نے آج کیا کھایا؟

۱۰۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالْعَشْرُونَ

كَانَ وَأَخَوَاتُهَا

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا كَرِيمًا وَ أَصْحَابُهُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ وَأَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ.
كَانَتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَفِيفَةً طَاهِرَةً.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

”كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالجَسَدِ“.

كَيْفَ أَصْبَحْتُ؟ أَصْبَحْتُ بِخَيْرٍ وَالحَمْدُ لِلَّهِ.

أَضْحَى المَطَرُ غَزِيرًا.

أَمْسَى المُسَافِرُ مُتَعَبًا.

ظَلَّ المُسْلِمُ صَائِمًا.

بَاتَ الزَّاهِدُ قَائِمًا.

صَارَ الكَافِرُ مُسْلِمًا.

لَيْسَ الكَسْلَانُ نَاجِحًا.

يَبِيتُ المَرِيضُ سَاهِرًا.

يَصِيرُ الطَّالِبُ المُجْتَهِدُ نَاجِحًا.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ كَيْفَ أَصْبَحَ صَدِيقُكَ؟
- ۲۔ هَلْ كَانَ الْمَطَرُ نَازِلًا أَمْسِي؟
- ۳۔ هَلْ صَارَ أَبُوكَ مُتَقَاعِدًا؟
- ۴۔ هَلْ بَاتَتِ الْمَرِيضَةُ سَاهِرَةً؟
- ۵۔ هَلْ ظَلَّ الْعَامِلُ مُشْتَغَلًا فِي الْمَصْنَعِ؟
- ۶۔ هَلْ أَمْسَى الطَّائِرُ رَاجِعًا إِلَى عِشِّهِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ دشمن دوست بن گیا۔
- ۲۔ قیامت کا دن دور نہیں۔
- ۳۔ کل کا سبق مشکل تھا۔
- ۴۔ بچے نے روتے ہوئے صبح کی۔
- ۵۔ دن بھر ہم کھیلتے رہے۔
- ۶۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے۔
- ۷۔ شام کے وقت سورج کی روشنی مدھم تھی۔
- ۸۔ رات بھر ہم عبادت میں مصروف رہے۔
- ۹۔ جیل بخیل تھا لیکن اب سخی ہو گیا ہے۔
- ۱۰۔ مریض نے کیسے صبح کی؟

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

إِنَّ الطَّائِرَةَ بَيْنَ السَّحَابِ.

عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا الْقِطَارَ يَذْهَبُ إِلَى كِرَاتَشِي.

يَسْرُنِي أَنَّ الْبِنْتَ مُجْتَهِدَةٌ.

وَقَفْتُ السَّيَّارَةَ لِأَنَّ الْبُتْرُولَ قَدْ نَفَدَ.

كَأَنَّ وَجْهَكَ بَدْرٌ.

كَأَنَّ الشَّعْرَ لَيْلٌ.

سَلِيمٌ رَجُلٌ شَجَاعٌ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ.

كَانَ الْجَا حِظُّ أَدِيًّا كَبِيرًا لَكِنَّهُ كَانَ دَمِيمَ الصُّورَةِ.

لَعَلَّ الْاِمْتِحَانَ قَرِيبٌ.

لَعَلَّ أَبِي يَرْجِعُ الْيَوْمَ.

لَيْتَ الدَّوَاءَ حُلُوًّا.

لَيْتَ الْمُسْلِمَ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ (إِنَّ أَمِينٌ)
- ۲۔ (لَيْتَنِي)
- ۳۔ (سَرَّيْ أَنْكَ)
- ۴۔ (لَعَلَّ الشَّجَرَةَ)
- ۵۔ (كَأَنَّ الْقِطَّةَ)
- ۶۔ (عَلِمْتُ أَنَّ صَدِيقِي)
- ۷۔ (الْأُسْتَاذُ حَاضِرٌ لَكِنَّ الطُّلَّابَ)
- ۸۔ (إِنَّ سَيِّدَنَا حُسَيْنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)
- ۹۔ (الطَّعَامُ غَيْرُ جَاهِزٍ الضُّيُوفَ قَدْ وَصَلُوا)

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ کاش میں پائلٹ ہوتا۔
- ۲۔ شاید کہ چاند نکل آئے۔
- ۳۔ یقیناً اسلام دین کامل ہے۔
- ۴۔ گویا کہ آنسو چمکتا ہوا موتی ہے۔
- ۵۔ میں ہسپتال گیا لیکن ڈاکٹر نہیں آیا۔
- ۶۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
- ۷۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۸۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔

۹۔ یقیناً ریل گاڑی اسٹیشن پر رکتی ہے۔

۱۰۔ کاش تو محنتی ہوتا۔

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

الْمَاضِي الْبَعِيدُ

كَانَ ذَهَبَ رَئِيسُ الْبَاكِسْتَانِ إِلَى الصِّينِ فِي الْعَامِ الْمَاضِي.

كُنْتُ ذَهَبْتُ إِلَى حَدِيقَةِ الْحَيَوَانَ.

كُنَّا عُدْنَا الْمَرِيضَ أَمْسَ.

كَانَتْ خَاطَتْ أُمِّي قَمِيصًا لِي.

كَانَ اسْتُشْهِدَ فِي غَزْوَةِ الْبَدْرِ قَلِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّ الْكُفَّارَ

كَانُوا قَتَلُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ.

كُنْتُمْ ذَهَبْتُمْ إِلَى "مَرِي" فِي إِجَازَاتِ الصَّيْفِ.

كُنْتُمْ اشْتَرَكْتُمْ فِي حَفْلَةِ الْإِشَاءِ.

كُنْتُمْ نَجَحْتُمْ فِي الْإِمْتِحَانِ.

كَانَتْ سُرِقَتْ سَاعَتِي فِي الْعَامِ الْمَاضِي.

تمرین

۱۔ سوالوں کے جواب دیں۔

- ۱۔ هَلْ كُنْتُمْ سَلَّمْتُمْ عَلَى الْأُمَّهَاتِ؟
 - ۲۔ مَاذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَ مِنَ السُّوقِ بِالْأَمْسِ؟
 - ۳۔ هَلْ كُنْتُمْ اسْتَيْقَظْتُمْ قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ؟
 - ۴۔ هَلْ كُنْتَ جَهَّزْتَ الطَّعَامَ قَبْلَ الظُّهْرِ؟
 - ۵۔ هَلْ كَانَ ذَهَبَ أَخُوكَ إِلَى حَفْلَةِ الشَّأْيِ؟
 - ۶۔ هَلْ كَانَ تَصَافَحَ الصَّدِيقَانِ عِنْدَ اللِّقَاءِ؟
 - ۷۔ هَلْ كُنْتُمْ وَصَلْتُمْ إِلَى الْمَحَطَّةِ قَبْلَ مَوْعِدِ الْقِطَارِ؟
- ۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ کل تم نے کیا کیا تھا؟
- ۲۔ کل ہم ایئرپورٹ گئے تھے۔
- ۳۔ میں نے کل سبق یاد کیا تھا۔
- ۴۔ ان سب عورتوں نے کھانا پکایا تھا۔
- ۵۔ میں بھیڑ گیا تھا۔
- ۶۔ میں پچھلے سال عمرے کیلئے گیا تھا۔
- ۷۔ ہمارے باغ میں کلیاں کھلی ہوئی تھیں۔
- ۸۔ تم دونوں نے کل کیا کھایا تھا؟
- ۹۔ تم سب نے یہ کتاب دو ماہ میں پڑھ لی تھی۔
- ۱۰۔ میری امی جان نے میرے لئے رومال خریدا تھا۔

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ (كُنْتُ صَبَاحًا)
- ۲۔ (كُنَّا فِي الطُّفُولَةِ)
- ۳۔ (..... تَسْكُنُ فِي مِصْرَ)
- ۴۔ (..... تَعْمَلَانِ فِي الْمَعْمَلِ)
- ۵۔ (كَانَ صَدِيقِي بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ)
- ۶۔ (..... يَشْتَغَلْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ)
- ۷۔ (كُنْتُمْ لَيْلًا)
- ۸۔ (نَحْنُ عِنْدَ الْامْتِحَانِ)

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ ہم روز باغ جایا کرتے تھے۔
- ۲۔ یہ بچے پرندوں کی چہکار سنتے تھے۔
- ۳۔ تو بچپن میں سائیکل چلایا کرتا تھا۔
- ۴۔ تم دونوں دیہات میں رہا کرتے تھے۔
- ۵۔ تم عورتیں بچوں کو دین سکھایا کرتی تھیں۔
- ۶۔ پرانے زمانے میں لوگ دیے کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے۔
- ۷۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک ﷺ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔
- ۸۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات کو عبادت کرتے تھے اور دن کو جہاد کیا کرتے تھے۔
- ۹۔ آپ کس سکول میں پڑھتے تھے؟
- ۱۰۔ میں اسلامیہ ہائی سکول میں پڑھتا تھا۔

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

حِوَارٌ

هَلْ أَنْتَ مُهَنْدِسٌ؟

لَا، لَسْتُ مُهَنْدِسًا، بَلْ أَنَا طَبِيبٌ.

هَلْ زَوْجَتُكَ طَبِيبَةٌ؟

لَا، بَلْ هِيَ مُعَلِّمَةٌ.

هَلْ رَكِبْتَ السَّيَّارَةَ وَذَهَبْتَ إِلَى الْمُسْتَشْفَى؟

نَعَمْ، رَكِبْتُ السَّيَّارَةَ صَبَاحًا وَذَهَبْتُ إِلَى الْمُسْتَشْفَى، فَوَجَدْتُ
هُنَاكَ مَرَضَى يَنْتَظِرُونَنِي. فَحَصَّتْهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا وَوَصَفْتُ لَهُمْ

الدَّوَاءَ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي.

هَلْ تَقُودُ السَّيَّارَةَ؟

نَعَمْ أَقُودُهَا، وَلَكِنْ عِنْدِي سَائِقٌ يَقُودُ السَّيَّارَةَ.

مَاذَا تَفْعَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرَبِ؟

أَتَعَشَّى بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرَبِ ثُمَّ أُشَاهِدُ التَّلْفِيزِيُونَ قَلِيلًا، وَأَسْمَعُ

الْأَنْبَاءَ. بَعْدَ ذَلِكَ أَخْرُجُ إِلَى الْمَبْتَنَزَةِ فَأَتَجَوَّلُ سَاعَةً، ثُمَّ أَعُودُ

إِلَى الْبَيْتِ فَرِحًا مَسْرُورًا، فَإِنَامُ مُبَكَّرًا لِكَيْ أُسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَذَانِ

الْفَجْرِ.

تمرین

۱۔ ترجمہ کریں

- ۱۔ کیا آپ نے جہاز پر سفر کیا ہے؟
- ۲۔ نہیں بلکہ میں نے گاڑی پر سفر کیا ہے۔
- ۳۔ سوار ہونے سے پہلے آپ نے کیا کیا؟
- ۴۔ میں نے سوار ہونے سے پہلے ٹکٹ خریدا۔
- ۵۔ اور پلیٹ فارم پر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔
- ۶۔ جب گاڑی اسٹیشن پر پہنچی تو کچھ مسافر اترے۔
- ۷۔ پھر میں گاڑی پر سوار ہو گیا۔
- ۸۔ اور کھڑکی کے قریب سیٹ پر بیٹھ گیا۔
- ۹۔ بعض لوگ کھڑے تھے۔
- ۱۰۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی حرکت کرنے لگی اور دروازے بند کر دیئے گئے۔ تین گھنٹے بعد ہم سیالکوٹ کے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ وہاں ہمارے ماموں ہمارے انتظار میں تھے۔ ہم ان کی گاڑی میں سوار ہوئے اور گھر پہنچ گئے۔

www.waseemziyai.com

MARKAZ-U-ULUMUL-ISLAMIA

الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

حَدِيقَةُ الْحَيَوَانَاتِ

قَالَ لَنَا الْمُعَلِّمُ: يَا أَوْلَادِي! نَحْنُ نَذْهَبُ إِلَى حَدِيقَةِ الْحَيَوَانَاتِ
يَوْمَ الْخَمِيسِ الْقَادِمِ. فَفَرِحْنَا بِهَذَا الْاِقْتِرَاحِ فَرَحًا شَدِيدًا،
وَجَعَلْنَا نَسْتَعِدُّ لِدَلِكِ. فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ اجْتَمَعْنَا فِي
الْمَدْرَسَةِ. لَمَّا حَضَرَ الْأُسْتَاذُ رَكِبْنَا مَعَهُ سَيَّارَةَ الْمَدْرَسَةِ.

لَمَّا وَصَلَتِ السَّيَّارَةُ إِلَى بَابِ حَدِيقَةِ الْحَيَوَانَاتِ، نَزَلْنَا مِنَ
السَّيَّارَةِ بِهَدُوءٍ، فَاشْتَرَى الْمُعَلِّمُ التَّذَاكِرَ لِلدُّخُولِ فَدَخَلْنَاهَا
مُسْرِعِينَ. أَوَّلًا شَاهَدْنَا طُيُورًا جَمِيلَةً فِي الْأَقْفَاصِ مِثْلَ الْبَيْغَاءِ
وَالْعَصَافِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَالْحَمَامِ وَالطَّائِفِ.

ثُمَّ انْتَقَلْنَا إِلَى أَقْفَاصِ الْحَيَوَانَاتِ، فَرَأَيْنَا الْأَسَدَ وَالنَّمِرَ
وَالذَّبَّ وَالثَّعْلَبَ وَالذَّبَّ وَالْفِيلَ وَالْقِرْدَ، ثُمَّ رَأَيْنَا الْحَيَوَانَاتِ
الْمَائِيَّةَ كَالْتَّمْسَاحِ وَفَرَسِ النَّهْرِ وَالْأَسْمَاكِ الْمُتَنَوِّعَةِ.

فَقَضَيْنَا يَوْمًا جَمِيلًا، وَعَدْنَا إِلَى بُيُوتِنَا مَسَاءً فَرِحِينَ

مَسْرُورِينَ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

۱۔ مَاذَا اقْتَرَحَ الْأُسْتَاذُ عَلَى التَّلَامِيذِ؟

۲۔ هَلْ فَرِحَ الطُّلَابُ بِاقْتِرَاحِ الْمُعَلِّمِ؟

۳۔ أَيْنَ اجْتَمَعُوا فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ؟

۴۔ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ رَكِبُوا؟

۵۔ مَنْ اشْتَرَى التَّذَاكِرَ؟

۶۔ مَاذَا شَاهَدُوا أَوَّلًا؟

۷۔ كَيْفَ عَادَ الطُّلَابُ إِلَى بُيُوتِهِمْ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ مورنا چتا ہے۔

۲۔ کچھوار بیگتا ہے۔

۳۔ خرگوش تیز چلتا ہے۔

۴۔ لومڑی مکار جانور ہے۔

۵۔ ہاتھی کی سونڈ لمبی ہے۔

۶۔ کیا آپ نے بندر دیکھا ہے؟

۷۔ بندر لوگوں کی نقل اتارتا ہے۔

۸۔ خوبصورت پرندہ پنجرے میں ہے۔

۹۔ میں نے چڑیا گھر میں ہرن دیکھا۔

۱۰۔ شاہین پہاڑوں پر بسیرا کرتا ہے۔

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

أَوْقَاتٌ

فِي الْيَوْمِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ سَاعَةً. فِي السَّاعَةِ سِتُونَ دَقِيقَةً.
النَّهَارُ يَبْتَدِئُ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَيَنْتَهِي مَعَ غُرُوبِهَا.
النَّهَارُ وَقْتُ الْعَمَلِ وَالْجِدِّ وَكَسْبِ الْقُوَّةِ، وَاللَّيْلُ وَقْتُ
الرَّاحَةِ وَالنَّوْمِ.

فِي الْأُسْبُوعِ سَبْعَةٌ أَيَّامٌ وَهِيَ:

السَّبْتُ - الْأَحَدُ - الْاِثْنَانِ - الْثَلَاثَاءُ - الْأَرْبَعَاءُ - الْخَمِيسُ -
الْجُمُعَةُ.

وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ عُطْلَةٌ وَرَاحَةٌ وَعِبَادَةٌ. يَذْهَبُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى
الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ.

الشَّهْرُ الْعَرَبِيُّ ثَلَاثُونَ أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.

وَالشَّهْرُ الْإِفْرَنْجِيُّ وَاحِدٌ وَ ثَلَاثُونَ، أَوْ ثَلَاثُونَ، أَوْ ثَمَانِيَةٌ

وَعِشْرُونَ، أَوْ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا.

أَسْمَاءُ الشُّهُورِ الْعَرَبِيَّةِ أَوْ الْهَجْرِيَّةِ:

الْمُحَرَّمُ - صَفْرٌ - رَبِيعُ الْأَوَّلِ - رَبِيعُ الْآخِرِ - جُمَادَى

الْأُولَى - جُمَادَى الْآخِرَةُ - رَجَبٌ - شَعْبَانٌ - رَمَضَانٌ - شَوَّالٌ -

ذُو الْقَعْدَةِ - ذُو الْحِجَّةِ -

الشُّهُورُ الْإِفْرَنْجِيَّةُ أَوْ الْمِيلَادِيَّةُ:

يَنَآيِرُ - فَبْرَآيِرُ - مَارِسُ - إِبْرَيْلُ - مَآيُو - يُونِيُو - يُولِيُو
أَغْسَطُسُ - سِبْتَمْبَرُ - أَكْتُوبَرُ - نُوفَمْبَرُ - دَيْسَمْبَرُ -

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱- فیْ أَيْ يَوْمٍ وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ؟
- ۲- فیْ أَيْ شَهْرٍ يَصُومُ الْمُسْلِمُونَ؟
- ۳- فیْ أَيْ شَهْرٍ عِيدُ الْفِطْرِ؟
- ۴- كَمْ يَوْمًا فِي الشَّهْرِ الْعَرَبِيِّ؟
- ۵- مَاذَا تَعْمَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟
- ۶- فِيْ أَيْ شَهْرٍ اسْتَشْهَدَ سَيِّدُنَا الْإِمَامُ حُسَيْنٌ؟
- ۷- كَيْفَ عَادَ الطُّلَّابُ إِلَى بُيُوتِهِمْ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ آج کیا دن ہے؟

۲۔ آج جمعرات ہے، کل بدھ تھا۔

۳۔ رمضان شریف میں جنگ بدر ہوئی۔

۴۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں۔

۵۔ ذوالحجہ میں لوگ حج کرتے ہیں۔

۶۔ پچھلے جمعہ ہم عجائب گھر گئے۔

۷۔ دسمبر اور جنوری میں سردی شدید ہوتی ہے۔

۸۔ لیکن مارچ میں موسم معتدل ہو جاتا ہے۔

۹۔ نبی کریم ﷺ ربیع الاول میں مدینہ پہنچے۔

۱۰۔ جمعہ کا دن مبارک دن ہے۔

الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

النِّظَافَةُ

دَخَلَ الْمُعَلِّمُ فِي الْمَدْرَسَةِ صَبَاحًا فَرَأَى أَوْرَاقًا فِي سَاحَةِ الْمَدْرَسَةِ فَقَالَ: مَنْ أَلْقَى هَذِهِ الْأَوْرَاقَ فِي السَّاحَةِ؟ قَالَ خَالِدٌ: لَا أَذْرِي مَنْ أَلْقَى هَذِهِ الْأَوْرَاقَ هُنَا.

قَالَ الْمُعَلِّمُ: يَا خَالِدُ! اجْمَعْ هَذِهِ الْأَوْرَاقَ وَضَعْهَا فِي سَلَّةِ الْمُهِمَلَاتِ. بَعْدَ دَقَائِقَ دُقَّ الْجَرَسُ، فَذَهَبَ التَّلَامِيذُ إِلَى غُرْفَةِ الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْمُعَلِّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَجَلَسَ عَلَى الْكُرْسِيِّ، وَقَالَ:

أَيُّهَا الْوَلَدُ الْمُسْلِمُ! يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ نَظِيفًا كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ ثِيَابُكَ نَظِيفَةً، وَأَنْ تَكُونَ كُتُبُكَ وَدَفَاتِرُكَ وَحُجْرَتُكَ نَظِيفَةً لِأَنَّكَ مُسْلِمٌ وَالْمُسْلِمُ دَائِمًا نَظِيفٌ.

قَدْ قَالَ رَسُولُنَا ﷺ: «إِنَّ النَّظَافَةَ نِصْفُ الْإِيمَانِ». وَقَالَ

أَيْضًا: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ.»

يَا أَوْلَادِي! لَا تُلْقُوا الْأَشْيَاءَ الْمُهِمَلَةَ فِي الْفَصْلِ وَلَا فِي السَّاحَةِ، بَلْ أَلْقُوها فِي سَلَّةِ الْمُهِمَلَاتِ، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَدْرَسَتُكَ جَمِيلَةً وَنَظِيفَةً.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ مَاذَا رَأَى الْمُعَلِّمُ حِينَمَا دَخَلَ الْمَدْرَسَةَ؟
- ۲۔ مَاذَا قَالَ الْمُعَلِّمُ لِخَالِدٍ؟
- ۳۔ هَلْ سَلَّمَ الْمُعَلِّمُ عَلَى التَّلَامِيذِ؟
- ۴۔ عَمَّ تَحَدَّثَ الْمُعَلِّمُ؟
- ۵۔ هَلْ تَهَنَّتْ بِالنِّظَافَةِ؟
- ۶۔ هَلْ حَفِظْتَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ فِي الدَّرْسِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ گندگی سے بچو۔
- ۲۔ صاف ستھرا بچہ پسندیدہ ہے۔
- ۳۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔
- ۴۔ صاف ستھرے کپڑے پہنو۔
- ۵۔ مٹی میں نہ کھیلو۔
- ۶۔ میرے والد صاحب صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔
- ۷۔ عادل ہر روز اپنے دانت مسواک کے ساتھ صاف کرتا ہے۔
- ۸۔ وضو صفائی کا ذریعہ ہے۔
- ۹۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وضو کرنے کا حکم دیا۔
- ۱۰۔ یہ چھلکے ٹوکری میں ڈال دو۔

الدَّرْسُ الثَّلَاثُونَ

حِوَارٌ

مُنِيرٌ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

سَمِيرٌ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

مُنِيرٌ: كَيْفَ حَالُكَ؟

سَمِيرٌ: أَنَا بِخَيْرٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.

مُنِيرٌ: مَتَى تَسْتَيْقِظُ صَبَاحًا؟

سَمِيرٌ: أَسْتَيْقِظُ قَبْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ.

مُنِيرٌ: هَلْ تُصَلِّيُ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي الْمَسْجِدِ؟

سَمِيرٌ: نَعَمْ أَصَلِّيُ الْفَجْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

مُنِيرٌ: مَاذَا تَعْمَلُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟

سَمِيرٌ: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَتْلُو الْقُرْآنَ.

مُنِيرٌ: هَلْ تَذْهَبُ إِلَى الْبُسْتَانِ قَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى الْمَدْرَسَةِ؟

سَمِيرٌ: نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْبُسْتَانِ.

مُنِيرٌ: مَاذَا تَعْمَلُ فِي الْبُسْتَانِ؟

سَمِيرٌ: أَنَا أَجْرِي، وَأَلْعَبُ، وَأَشْمُ الْهَوَاءَ النَّقِيَّ، وَأَرَى الْأَشْجَارَ

الْخَضْرَاءَ وَالْأَزْهَارَ الْجَمِيلَةَ، وَأَسْمَعُ تَغْرِيدَ الطُّيُورِ.

تمرین

۱۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ وہ بڑا ذہین ہے۔

۲۔ کیا تم صبح نہاتے ہو؟

۳۔ تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟

۴۔ کیا تم اذان فجر سے پہلے اٹھتے ہو؟

۵۔ ابو جان ریڈیو سے خبریں سنتے ہیں۔

۶۔ وہ ناشتہ کے بعد دفتر جاتے ہیں۔

۷۔ میرا بھائی چھٹی کلاس میں پڑھتا ہے۔

۸۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں۔

۹۔ امی جان باورچی خانہ میں ناشتہ تیار کرتی ہیں۔

۱۰۔ میری بہن میرے ساتھ سکول جاتی ہے۔

الدَّرْسُ الحَادِي والثَّلَاثُونَ

آدَابُ الطَّعَامِ

إِنَّ لِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ آدَابًا يَجِبُ عَلَيْكَ اتِّبَاعُهَا، لِتَحْسُنَ صِحَّتَكَ،
وَتَسَلَّمَ مِنَ الْأَمْرَاضِ الْكَثِيرَةِ.

أَيُّهَا الْوَالِدُ! إِذَا أَرَدْتَ تَنَاوُلَ الطَّعَامِ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ قَبْلَ
الطَّعَامِ، وَسَمَّ اللَّهُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الطَّعَامِ.

فَلَا تَبْدَأْ بِالطَّعَامِ إِذَا جَلَسْتَ مَعَ كَبِيرٍ، وَكُلْ مِنْ قُدَامِكَ
وَلَا تَأْكُلْ فَوْقَ حَاجَتِكَ، وَلَا تُسْرِعْ فِي الْأَكْلِ، وَأَمْضِغِ الطَّعَامَ
جَيِّدًا، وَلَا تُلَوِّثْ يَدَيْكَ وَثِيَابَكَ، وَلَا تَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بَيْنَ
أَسْنَانِكَ، فَإِنَّهُ يَضُرُّ الْأَسْنَانَ، وَلَا تَذُمَّ طَعَامًا تَكْرَهُهُ.

وَإِذَا فَرَعْتَ مِنَ الطَّعَامِ فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَاغْسِلْ يَدَيْكَ وَفَمَّكَ

بِالْمَاءِ وَالصَّابُونِ.

تمرین

۱۔ سوالوں کے جواب دیں۔

۱۔ مَاذَا تَأْكُلُ فِي الْفُطُورِ؟

۲۔ هَلْ تَغْسِلُ يَدَيْكَ قَبْلَ الطَّعَامِ؟

۳۔ كَمْ مَرَّةً تَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي الْيَوْمِ؟

۴۔ مَاذَا يَجِبُ عِنْدَ بَدءِ الطَّعَامِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ پانی کھڑے ہو کر نہ پیو۔

۲۔ مسواک کے ساتھ دانت صاف کر۔

۳۔ میں ناشتہ میں جو س پیتا ہوں۔

۴۔ بعض لوگ کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں اور بعض پھل کھاتے ہیں۔

۵۔ کھانا خوب چباؤ۔

۶۔ کھانا مت نگلو۔

۷۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔

۸۔ کیا آپ کھانے کے آداب جانتے ہیں؟

۹۔ تھوڑا کھانا صحت کے لئے مفید ہے۔

۱۰۔ کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دھولو۔

الدَّرْسُ الثَّانِي والثَّلَاثُونَ

فُصُولُ السَّنَةِ

فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةٌ فُصُولٌ، وَهِيَ: الشِّتَاءُ، وَالرَّبِيعُ، وَالصَّيْفُ،
وَالْخَرِيفُ. يَشْتَدُّ الْبُرْدُ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ فَنَلْبَسُ الْمَلَابِسَ
الصُّوفِيَّةَ، وَنَحِبُ الْجُلُوسَ فِي الشَّمْسِ. نَأْكُلُ الْبُرْتَقَالَ، وَنَمُصُّ
الْقَصَبَ. فِي هَذَا الْفَصْلِ يَكُونُ اللَّيْلُ أَطْوَلَ مِنْ النَّهَارِ.

يَشْتَدُّ الْحَرُّ فِي فَصْلِ الصَّيْفِ، وَيَسِيلُ الْعَرَقُ فَنَلْبَسُ
الْمَلَابِسَ الْخَفِيفَةَ، وَنَبْتَعِدُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الشَّمْسِ، وَنَجْلِسُ
تَحْتَ الْمَرَاوِحِ وَظِلَالِ الْأَشْجَارِ. نَأْكُلُ الْبَطِيخَ وَالشَّمَامَ
وَالْخِيَارَ وَالتُّوتَ وَالخَوْخَ وَالْبُرْقُوقَ وَالْمَانْجُوتَ. فِي هَذَا الْفَصْلِ
يَكُونُ النَّهَارُ أَطْوَلَ مِنْ اللَّيْلِ.

فِي فَصْلِ الْخَرِيفِ تَقِلُّ الْحَرَارَةُ، وَتَسْقُطُ أَوْرَاقُ الْأَشْجَارِ،
وَيَتَسَاوَى زَمَنُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

فَصْلُ الرَّبِيعِ مَحْبُوبٌ عِنْدَ الْجَمِيعِ، وَهُوَ أَجْمَلُ فُصُولِ
السَّنَةِ. فِي هَذَا الْفَصْلِ تَتَفَتَّحُ الْأَزْهَارُ، وَتُورِقُ الْأَشْجَارُ، وَتُغَرِّدُ
الطُّيُورُ فَوْقَ الْأَغْصَانِ، وَيَتَعَطَّرُ الْهَوَاءُ بِرَائِحَةِ الْأَزْهَارِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ کَمَ فَصَلًا فِي السَّنَةِ؟
 - ۲۔ أَيُّ فَصَلٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 - ۳۔ مَتَى يَأْتِي فَصَلُ الرَّبِيعِ؟
 - ۴۔ مَاذَا تَلْبَسُ فِي فَصَلِ الشِّتَاءِ؟
 - ۵۔ أَيُّ شَيْءٍ يُزْرَعُ فِي فَصَلِ الصَّيْفِ؟
 - ۶۔ فِي أَيِّ فَصَلٍ تُغْلَقُ الْمَدَارِسُ؟
- ۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ پرندے چہرہ ہے ہیں۔
- ۲۔ باغوں میں کلیاں کھلی ہیں۔
- ۳۔ موسم بہار خوبصورت موسم ہے۔
- ۴۔ موسم گرما میں پسینہ بہتا ہے۔
- ۵۔ ہم موسم بہار میں سیر کے لئے نکلتے ہیں۔
- ۶۔ میں موسم گرما کی چھٹیوں میں مری جاتا ہوں۔
- ۷۔ بعض لوگ گرمیوں میں کاغان جاتے ہیں۔
- ۸۔ موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔
- ۹۔ سردیوں میں چائے بکثرت پی جاتی ہے۔
- ۱۰۔ سائے کے نیچے بیٹھو۔

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

الْفَلَّاحُ

الْفَلَّاحُ يَسْكُنُ فِي الْقَرْيَةِ، وَيَعْمَلُ بَجِدٍّ وَنَشَاطٍ، يَسْتَيْقِظُ
مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى حُقُولِهِ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَيَشْتَغِلُ فِي الْعَمَلِ، فَيَحْرُثُ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُ الْقَمْحَ
وَالْقُطْنَ وَالْقَصَبَ وَالْأُرْزَّ وَالشَّعِيرَ وَالْعَدَسَ وَالْحِمَصَّ
وَالْخَضِرَوَاتِ وَالْفَوَاكِهَ الْمُتَنَوِّعَةَ. هُوَ يُتَعِبُ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا، نَحْنُ
نَأْكُلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا بِالرَّاحَةِ.

وَأَوْلَادُهُ يُسَاعِدُونَهُ فِي هَذَا الْعَمَلِ. فَالْوَلَدُ الْكَبِيرُ يَسُوقُ
الْمَاشِيَةَ إِلَى الْحَتْلِ، وَالْوَلَدُ الصَّغِيرُ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ.
وَتَسْتَيْقِظُ زَوْجَةُ الْفَلَّاحِ أَيْضًا مُبَكَّرَةً، فَتَحْلِبُ الْحَامُوسَ
وَتَسْتَخْرِجُ مِنَ اللَّبَنِ الزُّبْدَ، ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الْبَيْتِ، فَتَمَلَأُ الْجِرَّةَ،
وَتُعِدُّ الْفُطُورَ وَتَحْمِلُهُ عَلَى الرَّأْسِ إِلَى الْحَقْلِ، وَتَعْمَلُ فِي
الْبَيْتِ فَتَنْظِفُهُ، وَتَغْسِلُ الْمَلَابِسَ، وَتَعْجِنُ وَتَخْبِزُ وَتَطْبَخُ
الطَّعَامَ. فَهِيَ تَعْمَلُ طَوْلَ النَّهَارِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ متى يَسْتَيْقِظُ الفلاحُ؟
 - ۲۔ هل يذهب إلى الحقول مبكراً؟
 - ۳۔ ماذا يزرع الفلاح؟
 - ۴۔ ماذا يفعل الولدُ الصغير؟
 - ۵۔ من أين تأخذ زوجة الفلاح الماء؟
 - ۶۔ من يسوق الماشية إلى الحقل؟
- ۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ میرا باپ کسان ہے۔
- ۲۔ وہ اپنے کھیتوں میں محنت سے کام کرتا ہے۔
- ۳۔ کھیتوں میں لمبے لمبے درخت ہیں۔
- ۴۔ خالد کا بھائی گائے کا دودھ دوہتا ہے۔
- ۵۔ کسان ٹریکٹر سے بل چلاتا ہے۔
- ۶۔ اس کا بڑا بیٹا بکریاں پالتا ہے۔
- ۷۔ ہمارے گاؤں میں مڈل سکول ہے۔
- ۸۔ نہر سے مویشی پانی پیتے ہیں۔
- ۹۔ بچپن دودھ سے نکالا جاتا ہے۔
- ۱۰۔ اکثر لوگ دیہات میں رہتے ہیں۔

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

الْعَدَدُ (الف)

عِنْدِي كِتَابٌ. عِنْدَكَ كُرَّاسَةٌ. هَذَا قَلَمَانِ. هَتَانِ
تُفَاحَتَانِ. فِي الْبُسْتَانِ ثَلَاثَةُ أَطْفَالٍ، الْإِثْنَانِ مِنْهُمُ
يَتَحَادَثَانِ وَالثَّلَاثُ يَقْطِفُ الْأَزْهَارَ. فِي الْمَطْبَخِ ثَلَاثُ
بَنَاتٍ، الْإِثْنَانِ مِنْهُنَّ تَطْبُخَانِ الْأُرْزَّ وَالثَّلَاثَةُ تَعْجِنُ الدَّقِيقَ.
فِي الْأُسْبُوعِ سَبْعَةٌ أَيَّامٍ - فِي الْمَوْقِفِ سَبْعُ سَيَّارَاتٍ.
رَأَيْتُ فِي الْحَقْلِ عَشْرَ بَقَرَاتٍ. سَلَّمْتُ عَلَى عَشْرَةِ
طُلَّابٍ. إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدًا عَشَرَ كَوْكَبًا. عَرَسْتُ فِي
الْبُسْتَانِ إِحْدَى عَشْرَةَ شَجْرَةً. فِي الْكِتَابِ إِثْنَا عَشَرَ بَابًا.
قَرَأْتُ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ قِصَّةً. فِي الْكِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ
صُورَةً. فِي بَلَدِنَا خَمْسَةَ عَشَرَ مَصْنَعًا. وَدَعَّتْ تِسْعَةَ
عَشَرَ ضَيْفًا. تَرَحَّمْتُ عَلَى تِسْعِ عَشْرَةِ مِسْكِينَةٍ -

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

- ۱۔ (فی الصف طالبا)
- ۲۔ (فی الحديقة شجرة)
- ۳۔ (فی البنجاب أنهار)
- ۴۔ (عندی دراجات)
- ۵۔ (اشتریت أقلام)
- ۶۔ (سلمت علی رجلا)
- ۷۔ (أكلت ثلاث)
- ۸۔ (لی أربعة.....)
- ۹۔ (کتبت إلى والدي.....)
- ۱۰۔ (صاد أخی إحدى عشرة.....)
- ۱۱۔ (فی الدار ثمانية عشر.....)

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ میرے بھائی کے پاس دو گاڑیاں ہیں۔

۲۔ آج ہم نے سات سیب کھائے۔

۳۔ محمود نے دس مچھلیوں کا شکار کیا۔

۴۔ سلمیٰ نے گیارہ روٹیاں پکائیں۔

۵۔ درخت پر تین چڑیاں ہیں۔

۶۔ ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں۔

۷۔ چار طالب علم آج غیر حاضر تھے۔

۸۔ یہ کھانا پانچ لڑکیوں نے پکایا ہے۔

۹۔ پاکستان میں چار صوبے ہیں۔

۱۰۔ میرے پاس انیس روپے ہیں۔

الدَّرْسُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ (ب)

فِي الْكِتَابِ عِشْرُونَ صُورَةً.

الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا.

إِدَّخَرْتُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رُوبِيَّةً.

اِشْتَرَيْتُ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ بُرْتُقَالًا.

حَفِظْتُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ سُورَةً.

دَرَسْتُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ طَالِبًا.

رَبِّي الْفَلَّاحُ خَمْسًا وَسَبْعِينَ دَجَاجَةً.

فِي الْمَصْنَعِ سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ عَامِلًا.

فِي السَّاعَةِ سِتُّونَ دَقِيقَةً.

فِي الْمَوْقِفِ مِائَةٌ سَيَّارَةً.

فِي الْقِطَارِ مِائَتَا مُسَافِرٍ.

أَعْطَيْتُ أَخِي ثَلَاثَ مِائَةِ رُوبِيَّةٍ.

هَلْ عِنْدَكَ أَلْفُ رُوبِيَّةٍ؟

قَطَعَتِ الطَّائِرَةُ أَلْفَيْ مَيْلٍ.

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

۱- (فِي الْغُرْفَةِ أَرْبَعُونَ)

۲- (عَلَى الشَّجَرَةِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ)

۳- (أَكَلْتُ إِحْدَى وَخَمْسِينَ)

۴- (اشْتَرَيْتُ مِرْآةً)

۵- (فِي الشَّبَكَةِ سَمَكَةٌ)

۶- (فِي الْقُرْآنِ جُزْءٌ)

۷- (فِي الْمَطْبَخِ مِلْعَقَةٌ)

۸- (عِنْدِي مِائَةٌ)

۹- (فِي الْجَامِعَةِ طَالِبٌ)

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ آج میں ایک سکول گیا۔

۲۔ اس میں تین سو طالب علم ہیں۔

۳۔ استادوں کی تعداد تیس ہے۔

۴۔ اس میں پینتیس کمرے ہیں۔

۵۔ اس میں پچپن درخت ہیں۔

۷۔ مالی کی تنخواہ دو ہزار روپیہ ہے۔

۸۔ وہ اس سکول میں بیس سال سے کام کر رہا ہے۔

۹۔ اب اس کی عمر پچھتر سال ہے۔

۱۰۔ اس کے چھوٹے بیٹے کی عمر پچیس سال ہے۔

MARKAZ-UL-UMMAH
ISLAMIA ACADEMY

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

يَوْمُ الْعِيدِ

لِلْمُسْلِمِينَ عِيدَانِ فِي السَّنَةِ: عِيدُ الْفِطْرِ يَأْتِي بَعْدَ رَمَضَانَ، وَعِيدُ الْأَضْحَى وَهُوَ يَأْتِي فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمٌ جَمِيلٌ. إِنَّ النَّاسَ يَنْتَظِرُونَهُ بِشَوْقٍ، وَالْأَطْفَالُ يَسْتَعِدُّونَ لَهُ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِهِ. يَشْتَرُونَ الْمَلَابِسَ الْجَدِيدَةَ وَالْأَحْذِيَةَ، فَيَلْبَسُونَهَا يَوْمَ الْعِيدِ، وَيَأْخُذُونَ الْعِيدِيَّةَ مِنْ آبَائِهِمْ، وَيَشْتَرُونَ بِهَا الْحَلْوَى اللَّذِيذَةَ وَاللُّعْبَ الْمُخْتَلِفَةَ، وَيَخْرُجُونَ إِلَى الْبَسَاتِينِ وَالْمُنْتَزَهَاتِ، فَيَلْعَبُونَ وَيَضْحَكُونَ، وَيَعُودُونَ إِلَى بُيُوتِهِمْ مَسْرُورِينَ.

أَحَبُّ الْعِيدِ لِأَنَّهُ يَوْمُ الْفَرَحِ وَالسَّعَادَةِ. فِيهِ يَتَصَالَحُ الْمُتَخَاصِمُونَ وَيَتَقَارَبُ الْمُتَبَاعِدُونَ، وَالنَّاسُ يَزُورُونَ أَصْدِقَائِهِمْ وَيَهْنِئُونَ لَهُمْ، وَيُسَاعِدُونَ الْمُحْتَاجِينَ، لِيَشْتَرِكُوا فِي أَفْرَاحِ الْعِيدِ. مَا أَسْعَدَ هَذَا الْيَوْمَ!

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ مَتَى يَأْتِي عِيدُ الْفِطْرِ؟
- ۲۔ هَلِ اشْتَرَيْتَ حِذَاءً جَدِيدًا لِلْعِيدِ؟
- ۳۔ مِمَّنْ تَأْخُذُ الْعِيدِيَّةَ؟
- ۴۔ هَلْ أَنْتَ تَأْكُلُ الشَّعْرِيَّةَ يَوْمَ الْعِيدِ؟
- ۵۔ هَلْ تُعَانِقُ أَخَاكَ يَوْمَ الْعِيدِ؟
- ۶۔ أَيْنَ يُصَلِّي النَّاسُ صَلَاةَ الْعِيدِ؟
- ۷۔ هَلْ يَأْتِي ضَيْوْفٌ عِنْدَكَ يَوْمَ الْعِيدِ؟
- ۸۔ هَلْ تَخْرُجُ إِلَى الْحَدِيقَةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ عید آئی اور بچے خوش ہو گئے۔
- ۲۔ بچے بڑی شدت سے عید کا انتظار کرتے ہیں۔
- ۳۔ میں نے عید کا چاند دیکھا۔
- ۴۔ میرا والد گائے ذبح کرتا ہے۔
- ۵۔ جمیل نے اپنے دوست کو عید کی مبارک دی۔
- ۶۔ محمود اپنے والد سے عید لیٹتا ہے۔
- ۷۔ وقاص کے والد نے عید الاضحیٰ کیلئے بکر خریدی۔
- ۸۔ ہم محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔
- ۹۔ آپ نے عید کی نماز کہاں ادا کی؟
- ۱۰۔ عید کے دن میں اپنے دوستوں سے گلے ملتا ہوں۔

الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

الْإِحْسَانُ بِالْوَالِدَيْنِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَلِّمُنَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَيَأْمُرُنَا
بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا.

يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُكْرِمَهُمَا وَنَخْدِمَهُمَا، لِأَنَّهُمَا يَعِيشَانِ
لِأَجْلِنَا.

الْأُمُّ تَحْمَلُ الْمَصَائِبَ لِأَجْلِ الْوَلَدِ. هِيَ تَرْضِعُهُ وَتُتَعَبُ
نَفْسَهَا لِرَاحَةِ الْوَلَدِ، وَتَخْدُمُهُ وَتَرْعَاهُ. تَفْرَحُ بِفَرَحِهِ وَتَتَأَلَّمُ
لِأَلَمِهِ حَتَّى يَكْبُرَ وَيَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ.

الْأَبُ يُحِبُّ وَوَلَدَهُ، وَيَعْمَلُ طَوْلَ النَّهَارِ لِكَسْبِ الْقُوَّةِ،
وَيُهَيِّئُ لَهُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. عِنْدَ مَا يَرْجِعُ مِنْ عَمَلِهِ، يَحْمِلُهُ
وَيُقَبِّلُهُ وَيُلَاعِبُ مَعَهُ.

أَيُّهَا الْوَالِدُ! تَذَكَّرْ فَضْلَ الْوَالِدَيْنِ، وَلَا تَنْسَ الْإِحْسَانَ
إِلَيْهِمَا.

تمرین

۱۔ خالی جگہ پر کریں۔

۱- (عَاشَ مِنْ أَجْلِكَ)

۲- (الْأَبُ طُولَ النَّهَارِ)

۳- (..... تَحْمِلُ وَلَدَهَا)

۴- (الْوَلَدُ أَبَاهُ)

۵- (تَذَكَّرُ الْوَالِدَيْنِ)

۶- (..... يُقْبَلُ وَلَدَهُ)

۷- (يَذْهَبُ الْأَبُ بِوَلَدِهِ إِلَى)

۸- (الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّلَاةَ)

۹- (الْوَلَدُ يُحَاكِي)

۱۰- (الْوَلَدُ فِي الْمَهْدِ)

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ ہم اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں۔

۲۔ امی جان ناشتہ تیار کرتی ہیں۔

۳۔ اور میرے کپڑے دھوتی ہیں۔

۴۔ گھر کی صفائی کرتی ہیں۔

۵۔ ابو جان صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں۔

۶۔ نماز پڑھتے ہیں۔

۷۔ پھر اخبار پڑھتے ہیں اور میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔

۸۔ اور پھر دفتر چلے جاتے ہیں۔

۹۔ وہ سارا دن وہاں کام کرتے ہیں۔

۱۰۔ جب میں سکول سے واپس آتا ہوں تو مجھے پڑھاتے ہیں۔

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَوَالِدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (متفق عليه: أى رواه البخارى والمسلم)

يُرْشِدُنَا هَذَا الْحَدِيثُ إِلَىٰ أَنَّ مَحَبَّةَ الرَّسُولِ وَاجِبَةٌ وَمُقَدَّمَةٌ

عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ جَمِيعًا، لِأَنَّهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَخْرَجَنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ إِلَىٰ نُورِ الْعِلْمِ

وَالْهِدَايَةِ، وَشَرَّفَنَا بِالْإِيمَانِ، وَهَدَانَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ.

كَانَ النَّاسُ فِي ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ وَالْأَوْهَامِ حَتَّىٰ نَسُوا

خَالِقَهُمُ الْحَقِيقِيَّ فَأَخْرَجَهُمْ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الضَّلَالَاتِ فَأَوْصَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ.

تَقْتَضِي مَحَبَّتَهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) أَنْ تَتَّبِعَ سُنَّتَهُ،

وَنُدَافِعَ عَنِ شَرِيعَتِهِ، وَنَعْمَلَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنُحِبَّ أَصْحَابَهُ

• وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْكِرَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ مَا الْمُرَادُ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ؟
 - ۲۔ إِمَّا يُرْشِدُ هَذَا الْحَدِيثُ؟
 - ۳۔ كَيْفَ كَانَ النَّاسُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟
 - ۴۔ مَنْ هَدَاهُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؟
 - ۵۔ مَا تَقْتَضِي مَحَبَّتُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)؟
 - ۶۔ مَاذَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الدَّرْسِ؟
- ۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ رسول اللہ ﷺ سب انبیاء سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔
- ۲۔ آپ کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے۔
- ۳۔ آپ ﷺ کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں۔
- ۴۔ محبت کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کریں۔
- ۵۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
- ۶۔ آپ نے ہمیں اپنے رب تک پہنچایا اور لوگوں کو تاریکیوں سے نکالا۔
- ۷۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔
- ۸۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے لوگ گمراہیوں میں تھے۔
- ۹۔ اہل مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔
- ۱۰۔ انہوں نے بیت اللہ میں بہت سے بت جمع کر رکھے تھے۔

الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. خَلَقْنَا وَخَلَقَ لَنَا الْهَوَاءَ وَالسَّمَاءَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَالزَّرْعَ
وَالجِبَالَ وَالنَّارَ وَالطَّيْرَ وَالسَّمَكَ وَالذُّوَابَ، وَأَعْطَانَا الْأَيْدِيَ
نَعْمَلُ بِهَا، وَالْأَرْجُلَ نَمْشِي بِهَا، وَاللِّسَانَ نَتَكَلَّمُ بِهِ، وَالْأَعْيُنَ
نَبْصُرُ بِهَا، وَالْأُذُنَ نَسْمَعُ بِهَا، وَالْعَقْلَ نَتَفَكَّرُ بِهِ.

وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِهِدَايَةِ النَّاسِ. مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ دَخَلَ
الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ دَخَلَ النَّارَ.

يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ وَيَعْبُدَهُ وَلَا يُشْرِكَ بِهِ
شَيْئًا، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمِنَ بِرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَيَوْمِ
الْآخِرَةِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْكُونِ
يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

۱۔ مَنْ رَبُّكَ؟

۲۔ مَنْ الَّذِي خَلَقَ هَذَا الْكَوْنُ؟

۳۔ لِمَ أَعْطَانَا اللَّهُ الْأَعْيْنَ؟

۴۔ مَاذَا تَفْعَلُ بِرَجُلَيْكَ؟

۵۔ لِمَ أَرْسَلَ اللَّهُ رُسُلَهُ؟

۶۔ مَا الْجَزَاءُ لِلْمُطِيعِ؟

۷۔ مَاذَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ؟

۸۔ أَيُّ شَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى وُجُودِهِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔

۲۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

۳۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ مخلص بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔

۶۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت بنائی ہے۔

۷۔ مسلمان حج کے لئے کعبہ جاتے ہیں اور حج کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔

الدَّرْسُ الأَرْبَعُونَ

الْغُرَابُ وَالثَّعْلَبُ

اِخْتَطَفَ غُرَابٌ قِطْعَةَ لَحْمٍ مِنْ حَانُوتِ الْجَزَّارِ، فَأَمْسَكَهَا
بِمِنْقَارِهِ، وَطَارَ إِلَى غُصْنِ شَجَرَةٍ، فَرَأَاهُ ثَعْلَبٌ وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهُ قِطْعَةَ اللَّحْمِ بِحِيلَةٍ.

فقال له:

مَا أَجْمَلَكَ أَيُّهَا الْغُرَابُ، وَمَا أَحْلَى صَوْتِكَ! كَأَنَّكَ مَلِكُ

الطُّيُورِ.

إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتِكَ الْجَمِيلَ، فَأَسْمِعْنِي أُغْنِيَةً.

فَانْخَدَعَ الْغُرَابُ بِهَذَا الْمَدْحِ الْكَاذِبِ.

فَجَعَلَ يَنْعَقُ، فَسَقَطَتِ قِطْعَةُ اللَّحْمِ مِنْ فَمِهِ، فَاسْرَعَ

الثَّعْلَبُ وَأَخَذَ قِطْعَةَ اللَّحْمِ وَالتَّقَمَهَا.

فَنَدِمَ الْغُرَابُ عَلَى حُمَقِهِ.

تمرین

۱۔ سوالوں کے جواب دیں۔

۱۔ مَالُونَ الْغُرَابِ؟

۲۔ مِمَّنْ أَيْنَ أَخَذَ الْغُرَابُ قِطْعَةَ اللَّحْمِ؟

۳۔ وَإِلَى أَيْنَ طَارَ؟

۴۔ مَاذَا أَرَادَ الثَّعْلَبُ؟

۵۔ مَاذَا قَالَ لَهُ الثَّعْلَبُ؟

۶۔ هَلِ انْخَدَعَ الْغُرَابُ بِالْمَدْحِ الْكَاذِبِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ گواہو میں اڑ رہا ہے۔

۲۔ گواہ ایک بڑے درخت پر جا بیٹھا۔

۳۔ لومڑی درخت کے پاس سے گزری۔

۴۔ کیا تم نے لومڑی دیکھی ہے؟

۵۔ جی ہاں میں نے چڑیا گھر میں لومڑی دیکھی ہے۔

۶۔ لومڑی ایک مکار جانور ہے۔

۷۔ اس نے بچے سے روٹی کا ٹکڑا چھین لیا۔

۸۔ گواہ لومڑی کی تعریف سے دھوکہ کھا گیا۔

۹۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت اور سریلی ہے۔

۱۰۔ جھمٹی تعریف سے بچو۔

الدَّرْسُ الحَادِي والأَرْبَعُونَ

طَالِبٌ مِثَالِيٌّ

نَبِيلٌ وَلَدٌ مُهَذَّبٌ وَمُجْتَهِدٌ. يَجْتَهِدُ فِي ذُرُوسِهِ وَيُكْرِمُ أَسَاتِدَتَهُ، وَيُعَامِلُ مَعَ أَصْدِقَائِهِ مُعَامَلَةً حَسَنَةً، فَيُحِبُّهُ أَصْدِقَائُهُ؛ لِأَنَّهُ يُعَاوِنُهُمْ وَيُسَاعِدُ الْفُقَرَاءَ وَالْمُحْتَاجِينَ.

يَوْمًا كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ. لَمَّا وَصَلَ إِلَى الشَّارِعِ، رَأَى شَيْخًا كَبِيرًا يُحَاوِلُ عُبُورَ الشَّارِعِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْبرَ الشَّارِعَ لِكثْرَةِ السَّيَّارَاتِ السَّرِيعَةِ. فَتَقَدَّمَ نَبِيلٌ نَحْوَهُ وَأَمْسَكَ يَدَهُ وَأَوْصَلَهُ إِلَى الطَّرْفِ الأَخْرِي مِنَ الشَّارِعِ. فَشَكَرَهُ الشَّيْخُ، وَدَعَا لَهُ بِالنَّجَاحِ.

لَمَّا عَلِمَ وَالِدُ النَّبِيلِ هَذَا فَرِحَ فَرِحًا شَدِيدًا عَلَى مُسَاعَدَةِ

الشَّيْخِ، وَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ!

هَكَذَا عَلَّمَنَا الْإِسْلَامُ أَنْ نُسَاعِدَ الأَخْرِيْنَ.

قرین

۱۔ سوالوں کے جواب دیں۔

۱۔ هَلْ نَبِيْلٌ يَجْتَهِدُ فِي دُرُوْسِهِ؟

۲۔ اَهُوَ يُكْرَمُ اَسَاتِدَتَهُ؟

۳۔ لِمَ يُحِبُّهُ اَصْدِقَائِهِ؟

۴۔ كَيْفَ يُعَامِلُ مَعَ اَصْدِقَائِهِ؟

۵۔ مَا ذَا رَأْيِ عَلَي الشَّارِعِ؟

۶۔ هَلْ شَكَرَ لَهُ الشَّيْخُ؟

۷۔ مَاذَا يُعَلِّمُنَا الْاِسْلَامُ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ نبیل اپنے پڑوسیوں کی مدد کرتا ہے۔

۲۔ وہ اپنے دوستوں کے والدین کی عزت کرتا ہے۔

۳۔ انہیں سلام کرتا ہے۔

۴۔ اپنے اسباق محنت سے یاد کرتا ہے۔

۵۔ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔

۶۔ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔

۷۔ اس لئے تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔

۸۔ ہمیں چاہئے کہ ہم فقراء و مساکین کی مدد کریں۔

۹۔ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔

۱۰۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ

الْعُصْفُورُ

الْعُصْفُورُ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ، شَكْلُهُ جَمِيلٌ، وَجِسْمُهُ صَغِيرٌ، وَذَيْلُهُ طَوِيلٌ، وَمِنْقَارُهُ قَصِيرٌ، وَصَوْتُهُ لَذِيذٌ. يَصْحُو مُبَكَّرًا وَيُغْرَدُ بِصَوْتِهِ الْعَذْبِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لِلنَّائِمِينَ: قُومُوا مِنَ النَّوْمِ فَاشْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ.

يَخْرُجُ الْعُصْفُورُ صَبَاحًا مِنَ الْعُشِّ طَالِبًا لِلْقُوْتِ، يَلْتَقِطُ الْحَبَّ، وَيَأْكُلُ الثَّمَارَ، وَيَشْرَبُ الْمَاءَ، وَيَطِيرُ مِنْ شَجَرَةٍ إِلَى شَجَرَةٍ، وَمِنْ غُصْنٍ إِلَى غُصْنٍ فَرِحًا، وَيَلْعَبُ طُولَ النَّهَارِ. عِنْدَ الْمَسَاءِ يَعُودُ إِلَى بَيْتِهِ.

يَبْنِي الْعُصْفُورُ بَيْتَهُ عَلَى غُصْنِ الشَّجَرَةِ. فَيَجْمَعُ الْقَشَّ وَالْأَرْيَاشَ وَيَضَعُ كُلَّ هَذَا بِنِظَامٍ فَيَبْيَضُ فِيهِ، بَعْدَ مُدَّةٍ قَلِيلَةٍ تَخْرُجُ مِنَ الْبَيْضِ عَصَافِيرٌ صَغِيرَةٌ لَيْسَ لَهَا رِيْشٌ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى الطَّيْرَانِ، فَتَجْمَعُ لَهَا أُمَّهَا طَعَامًا، وَبَعْدَ أَنْ تَكْبُرَ قَلِيلًا تَقْدِرُ عَلَى الطَّيْرَانِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

۱۔ هَلْ رَأَيْتَ عُصْفُورًا؟

۲۔ مَا لَوْنُهُ؟

۳۔ أَطَوِيلٌ ذَيْلُهُ أَمْ قَصِيرٌ؟

۴۔ مَتَى يَصْحُو الْعُصْفُورُ؟

۵۔ مَاذَا يَقُولُ لِلنَّائِمِينَ؟

۶۔ لِمَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ؟

۲۔ ”يَصْحُو مُبَكَّرًا“ کی ترکیب کریں۔

۳۔ ”نَائِمِينَ“ کی حالت رُفْعِی کیا ہے۔

۴۔ مضارع کی ماضی بنائیں۔

يَخْرُجُ - يَلْتَقِطُ - يَأْكُلُ - يَلْعَبُ - يَعُودُ - يَبْنِي - يَصْحُو

۴۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ طوطا ایک خوبصورت پرندہ ہے۔

۲۔ پرندے پروں کے ذریعے اڑتے ہیں۔

۳۔ شاہین پرندوں کا شکار کرتا ہے۔

۴۔ مور کھیت میں ناچ رہا ہے۔

۵۔ کوا بچوں سے روٹی چھین لیتا ہے۔

- ۶۔ چیل چوزوں کو اچک لیتی ہے۔
- ۷۔ بلبیل موسم بہار میں چہچہاتی ہے۔
- ۸۔ کیا شتر مرغ پرندہ ہے؟
- ۹۔ کبوتری نے دو انڈے دیئے تھے۔
- ۱۰۔ چڑیا کی دم چھوٹی ہے۔

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ

وَسَائِلُ النُّقْلِ (زَرَاعُ مَوَاصِلَات)

قَالَ عَلِيُّ لِصَدِيقِهِ حُسَامَ: رَكِبْتُ السَّيَّارَةَ مَعَ وَالِدِي الْيَوْمَ،
وَذَهَبْنَا إِلَى مَطَارٍ لَأَهْوَرَ حَيْثُ شَاهَدْتُ الطَّائِرَاتِ تَهْبِطُ
وَتَصْعَدُ.

قَالَ لِي وَالِدِي:

كَانَ النَّاسُ قَدِيمًا لَا يَجِدُونَ لِلرُّكُوبِ سِوَى الدَّوَابِّ مِثْلِ
الْإِبِلِ وَالْفَرَسِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعْلِ. وَلَكِنِ الْيَوْمَ تُوْجَدُ سَيَّارَاتُ
وَطَّائِرَاتُ وَبَوَاجِرُ وَقَطَّارَاتُ لِلانْتِقَالِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ.

قَالَ حُسَامُ: أَنَا أَحِبُّ أَنْ أُرَكِبَ الْبَاخِرَةَ، لِأَنَّهَا تَسِيرُ فَوْقَ
الْمَاءِ. قَالَ عَلِيُّ: أَنَا أَحِبُّ أَنْ أُرَكِبَ الطَّائِرَةَ، لِأَنَّهَا تَطِيرُ فِي
الْجَوِّ مِثْلَ الطَّائِرِ. وَبَعْضُ النَّاسِ يُجِبُّونَ الْقِطَارَ. يَقِفُ الْقِطَارُ
عَلَى الْمَحَطَّةِ وَالنَّاسُ يَنْزِلُونَ وَيَرْكَبُونَ.

فِي الْقُرَى يَسْتَعْمِلُ النَّاسُ الْعَجَلَاتِ لِلرُّكُوبِ، يَجْرُهَا
الْحِصَانُ، وَالطُّلَّابُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْمَدَارِسِ بِالدَّرَاجَاتِ
الَّذَاتِ أَجَاتِ النَّارِيَّةِ.

تمرین

۱۔ جمع کے واحد بنائیں۔

الطَّائِرَاتُ - الْبَوَاحِرُ - السَّيَّارَاتُ - الدَّرَاجَاتُ -
الْمَدَارِسُ - الطُّلَّابُ -

۲۔ مندرجہ ذیل کلمات کو جملوں میں استعمال کریں۔

يَقِفُ - يَجْرِي - الحمار - والدي - دَقَائِقُ - الناس

۳۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ کیا آپ ایئرپورٹ گئے ہیں؟

۲۔ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟

۳۔ میں ہوائی جہاز پر سوار ہوا۔

۴۔ گاڑی سٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے۔

۵۔ بعض لوگ پیدل چلتے ہیں۔

۶۔ دریا میں کشتی چلتی ہے۔

۷۔ میں سائیکل چلا سکتا ہوں۔

۸۔ کار سڑک پر چلتی ہے۔

۹۔ سوار ہونے سے پہلے ہم ٹکٹ لیتے ہیں۔

۱۰۔ دیہات میں لوگ سائیکلوں اور تانگوں پر سفر کرتے ہیں۔

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

النَّصِيحَةُ

حَامِدٌ وَلَدٌ ذَكِيٌّ وَمُهَذَّبٌ. يُذَاكِرُ وَقْتَ الْمُنْذَاكِرَةِ، وَيَلْعَبُ
 وَقْتَ اللَّعِبِ. يَخْرُجُ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى الْبُسْتَانِ يَجْرِي وَيَلْعَبُ،
 وَيَشْمُ الْهَوَاءَ الصَّافِيَّ، وَيَرَى الْأَشْجَارَ الْعَالِيَةَ وَالْأَزْهَارَ
 الْمُنْفَتِحَةَ، وَيَسْمَعُ تَغْرِيدَ الطُّيُورِ، وَيَشْمُ رَائِحَةَ الْأَزْهَارِ وَلَا
 يَقْطِفُهَا.

وَلَكِنَّ صَدِيقَهُ كَامِلًا بَلِيدٌ وَكَسْلَانٌ جَدًّا، يَنَامُ كَثِيرًا،
 وَيَلْعَبُ وَقْتَ الْمَذَاكِرَةِ وَيَتَغَيَّبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ كَثِيرًا. لَا يُحِبُّهُ
 أَسَاتِدَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُزْعِجُ زُمَلَاءَهُ وَيُفْسِدُ الْأَشْيَاءَ. إِذَا يَدْخُلُ فِي
 الْبُسْتَانِ يُتْلِفُ الْأَزْهَارَ وَالْأَثْمَارَ. فَمَنَعَهُ صَدِيقُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ
 لَهُ: إِنَّ هَذِهِ الْأَزْهَارَ سَتَصِيرُ ثَمَارًا نَأْكُلُهَا فَخَالَفَ نَصِيحَتَهُ
 وَقَطَفَ زَهْرَةَ الرُّمَّانِ كَانَتْ فِيهَا نَحْلَةٌ، فَلَسَعَتْهُ فَجَعَلَ يَبْكِي،
 وَعَرَفَ أَنَّ هَذَا جَزَاءُ الْمُخَالَفَةِ لِنَصِيحَةِ صَدِيقِهِ.

تمرین

۱۔ رَتَّبِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ:

۱۔ كَثِيرًا، عَنْ، يَتَغَيَّبُ، الْمَدْرَسَةَ، كَامِلًا.

۲۔ حَامِدًا، الْأَزْهَارَ، يُتْلَفُ، الثَّمَارَ، وَ.

۳۔ وَقْتُ الْمَذَاكِرَةِ، يَلْعَبُ.

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک باغ ہے۔

۲۔ باغ کا مالی دن بھر کام کرتا ہے۔

۳۔ وہ باغ کی حفاظت کرتا ہے۔

۴۔ درختوں کو پانی دیتا ہے۔

۵۔ لوگوں کو پھول توڑنے سے منع کرتا ہے۔

۶۔ باغ کی صفائی کرتا ہے۔

۷۔ بچے گھاس پر کھیلتے ہیں۔

۸۔ بعض بچے چھلکے گھاس پر پھینک دیتے ہیں۔

۹۔ لیکن یہ بری عادت ہے۔

۱۰۔ اسلام ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے۔ اور صفائی نصف اعمال ہے۔

الدَّرْسُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

الصَّدَقُ

كَانَ هِشَامٌ يَلْعَبُ فِي فِنَاءِ الْمَدْرَسَةِ بِالْكُرَةِ. فِي أَثْنَاءِ اللَّعْبِ قَذَفَ الْكُرَةَ بِرِجْلِهِ، فَصَدَمَتِ الْكُرَةُ بِالنَّافِذَةِ، وَكَسَرَتِ الزُّجَاجَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ، لِأَنَّ الْمَدْرَسَةَ كَانَتْ خَالِيَةً مِنَ الطَّلَبَةِ وَالْمُعَلِّمِينَ. عِنْدَمَا رَأَى هِشَامُ الزُّجَاجَ مُنْكَسِرًا، حَزِنَ حُزْنًا شَدِيدًا، وَنَدِمَ عَلَى فِعْلِهِ، وَذَهَبَ إِلَى مُدِيرِ الْمَدْرَسَةِ.

وَقَالَ لَهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.

فَقَالَ لَهُ الْمُدِيرُ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ.

اجْلِسْ يَا بَنِيَّ، مَا الْأَمْرُ؟

قَالَ هِشَامٌ: لَقَدْ كَسَرْتُ زُجَاجَ النَّافِذَةِ حِينَ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْكُرَةِ. أَنَا نَادِمٌ عَلَى هَذَا وَأُرِيدُ أَنْ أُصْلِحَهُ.

قَالَ الْمُدِيرُ: شُكْرًا لَكَ عَلَى صِدْقِكَ يَا هِشَامُ.

قَالَ هِشَامٌ: لَا شُكْرَ عَلَى الْوَاجِبِ، فَإِنَّكَ يَا سَيِّدِي إِنَّ لَمْ

تَرِنِي فَإِنَّ اللَّهَ يَرَانِي.

تمرین

۱۔ مندرجہ ذیل کلمات کو جملوں میں استعمال کریں۔

الزُّجَّاجُ، يَلْعَبُ، كَسَرَ، قَذَفَ، أَخْبَرَ.

۲۔ جمع بنائیں۔

كُرَّةٌ، مَدْرَسَةٌ، نَافِذَةٌ، مُعَلِّمٌ، أَمْرٌ.

۳۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کی ترکیب کریں۔

۴۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ ہشام ایک مثالی لڑکا ہے۔

۲۔ کوئی چیز خراب نہیں کرتا۔

۳۔ وہ کھیل کے میدان میں کھیلتا ہے۔

۴۔ گلی میں نہیں کھیلتا۔

۵۔ ہمیشہ وقت پر سکول جاتا ہے۔

۶۔ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے۔

۷۔ دوستوں سے جھگڑا نہیں کرتا۔

۸۔ صفائی کا خیال رکھتا ہے۔

۹۔ اپنے ہاتھوں کو سیاہی کے ساتھ آلودہ نہیں کرتا۔

۱۰۔ اپنے ابو کے ساتھ مسجد جاتا ہے۔

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ

الْمَطَرُ

فِي السَّمَاءِ سُحُبٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ زَادَتْ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى
صَارَتْ سَوْدَاءَ جِدًّا وَحَجَبَتِ الشَّمْسَ. إِسْمَعُ صَوْتَ الرَّعْدِ،
وَانظُرْ إِلَى الْبَرْقِ يَلْمَعُ فِي السَّمَاءِ وَيُنَوِّرُ الْأَرْضَ. هَذِهِ قَطْرَةٌ
مَطَرٍ سَقَطَتْ عَلَى يَدِي.

تَعَالَى،

نَقَفُ فِي الْبَابِ لِنَرَى الْمَطَرَ يَنْزِلُ عَلَى الْأَرْضِ.
جَعَلَ النَّاسُ يُسْرِعُونَ إِلَى هُنَا وَهُنَا، وَقَدْ نَشَرُوا الْمِظَلَّاتِ
خَوْفًا مِنَ الْمَطَرِ. الْمَاءُ يَنْزِلُ مِنَ الْمِيزَابِ وَيَجْتَمِعُ فِي
الشُّوَارِعِ، يَنْشَأُ عَنْهُ وَحَلٌّ كَثِيرٌ. رَبَّمَا يَنْزِلُ مِنْهُ الْإِنْسَانُ.
انْقَطَعَ الْمَطَرُ الْآنَ.

تَعَالَى،

نَذَهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ.

تمرین

۱۔ جملوں میں استعمال کریں۔

انزَلَقَ، الْمَطَرُ، الشَّمْسُ، الْمِظَلَّاتُ، الْبُرْقُ.

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ بارش موسلا دھار ہو رہی ہے۔

۲۔ بارش اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔

۳۔ بچے بارش میں نہاتے ہیں۔

۴۔ میں بادل کی گرج سنتا ہوں۔

۵۔ میرا چھوٹا بھائی بجلی سے ڈرتا ہے۔

۶۔ بارش کاپانی تالابوں میں جمع ہوتا ہے۔

۷۔ لوگ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔

۸۔ پرندے اور جانور بھی یہ پانی پیتے ہیں۔

۹۔ میں نے ایک نئی چھتری خریدی ہے۔

۱۰۔ یہ مجھے دھوپ اور بارش سے بچاتی ہے۔

الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

صَيْدُ السَّمَكِ

ذَهَبَ بِلَالٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَاطِئِ النَّهْرِ لِيَصِيدَ السَّمَكَ،
وَكَانَ مَعَهُ شِصٌّ لِيَصِيدَ السَّمَكَ. لَمَّا وَصَلَ إِلَى شَاطِئِ النَّهْرِ،
جَلَسَ عَلَى صَخْرَةٍ كَبِيرَةٍ وَأَخْرَجَ شِصَّهُ مِنَ السَّلَّةِ وَعَلَّقَ قِطْعَةً
لَحْمٍ عَلَى الشِّصِّ، ثُمَّ أَلْقَى الشِّصَّ فِي الْمَاءِ وَجَلَسَ يَنْتَظِرُ
حَتَّى شَعَرَ بِحَرَكَةٍ فِي الْخَيْطِ، فَجَذَبَهُ إِلَيْهِ وَرَفَعَهُ مِنَ الْمَاءِ،
فَظَهَرَتْ فِي الشِّصِّ سَمَكَةٌ كَبِيرَةٌ تَهْتَزُّ، فَأَخْرَجَ الشِّصَّ مِنْ
فَمِّهَا وَوَضَعَ السَّمَكَةَ فِي السَّلَّةِ، ثُمَّ رَمَى الشِّصَّ فِي النَّهْرِ
مِرَارًا وَصَادَ أَسْمَاكًَا كَثِيرَةً.

فَفَرِحَ بِلَالٌ بِذَلِكَ، وَعَادَبَهَا إِلَى بَيْتِهِ مَسْرُورًا. فَنَظَّفَتْهَا أُمُّهُ
وَقَلَّتْهَا فِي الزَّيْتِ، وَأَكَلَهَا حَمِيعُ أَفْرَادِ الْأُسْرَةِ، وَشَكَرُوا اللَّهَ
تَعَالَى عَلَى نِعْمَتِهِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

۱۔ إِلَىٰ أَيِّنَ ذَهَبَ بِلَالٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

۲۔ لِمَ ذَهَبَ إِلَىٰ شَاطِئِ النَّهْرِ؟

۳۔ مَاذَا عَلَّقَ عَلَى الشَّصِّ؟

۴۔ هَلْ ظَهَرَتْ فِي الشَّصِّ سَمَكَةٌ؟

۵۔ مَنْ نَظَّفَ الْأَسْمَاكَ؟

۶۔ هَلْ تَشْكُرُ اللَّهَ بَعْدَ الطَّعَامِ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ ایک دفعہ میں اپنے دوست کے ساتھ دریا کی طرف نکلا۔

۲۔ ہم نے مچھلی شکار کرنے کا ارادہ کیا۔

۳۔ ہم نے بازار سے کانٹا اور ڈوری خریدی۔

۴۔ جب دریا پر پہنچے تو کانٹے کو پانی میں پھینک دیا۔

۵۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے نکالا تو اس میں کچھو پایا۔

۶۔ دوبارہ ہم نے کانٹا دریا میں ڈالا۔

۷۔ کافی انتظار کے بعد ہم نے حرکت محسوس کی۔

۸۔ جب کانٹے کو نکالا تو اس میں چھوٹی سی مچھلی تھی۔

۹۔ کافی دیر کے بعد ہم مایوس ہو گئے اور شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔

۱۰۔ میرا دوست عاقل مچھلی کا شکار بہت پسند کرتا ہے۔

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ

الصَّدِيقُ

لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَعِيشَ مُنْفَرِدًا، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى
أَصْدِقَاءَ مُخْلِصِينَ كَيْ يَسْتَعِينَ بِهِمْ فِي أُمُورِ حَيَاتِهِ. يَجِبُ عَلَى
الْإِنْسَانِ أَنْ يَخْتَارَ صَدِيقًا صَالِحًا مُخْلِصًا. الصَّدِيقُ الْمُخْلِصُ
هُوَ الَّذِي يَنْصَحُ صَدِيقَهُ، وَيُرْشِدُهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَيَنْهَاهُ عَنْ
كُلِّ شَرٍّ، وَيَشْتَرِكُ فِي أَفْرَاحِهِ وَأَحْزَانِهِ، وَيَهْدِيهِ إِلَى الصَّوَابِ
بِتَجَارِبِهِ. إِذَا لَقِيَهِ يَفْرَحُ بِلِقَائِهِ، وَإِذَا غَابَ عَنْهُ لَا يَغْتَابُ. وَإِذَا
مَرِضَ يَعُودُهُ، وَإِذَا احتَاجَ إِلَى شَيْءٍ يُعْطِيهِ.

أَيُّهَا الطَّالِبُ الذَّكِيُّ! اخْتَرِ الصَّدِيقَ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْأَخْلَاقِ
الْفَاضِلَةِ وَالسَّيْرَةِ الْحَسَنَةِ، وَيَكُونُ عَاقِلًا تَقِيًّا يَخْشَى اللَّهَ،
وَيَكُونُ أَمِينًا صَادِقًا. فَإِذَا وَجَدْتَ صَدِيقًا تَوَجَدُ فِيهِ هَذِهِ
الْخِصَالُ فَاحْرَصْ عَلَى صِدْقَتِهِ. فَإِذَا أَخْطَأَ صَدِيقُكَ فَاعْفِرْ
خَطَأَهُ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَجُلًا سَابِلًا مِنْ كُلِّ عَيْوَبٍ.

تمرین

۱۔ مفرد کی جمع اور جمع کی مفرد بنائیں۔

صَدِيقٌ - تَجْرِبَةٌ - طَالِبٌ - أَحْزَانٌ - أَفْرَاحٌ - أَخْلَاقٌ -
عَاقِلٌ -

۲۔ ماضی کا مضارع اور مضارع کی ماضی بنائیں۔

يَجِبُ - يَشْتَرِكُ - يُرْشِدُ - يَخْتَارُ - مَرِضٌ - لَقِيَ - أَخْطَأُ -

۳۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ خالد میرا گہرا دوست ہے۔

۲۔ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور اکٹھے سکول جاتے ہیں۔

۳۔ وہ بڑا ذہین طالب علم ہے۔

۴۔ وہ اسباق میں مدد کرتا ہے۔

۵۔ ہم اکٹھے نماز کے لئے مسجد جاتے ہیں۔

۶۔ کبھی کبھی عصر کے بعد سیر کے لئے نکل جاتے ہیں۔

۷۔ وہ ہرے بھرے درخت بہت پسند کرتا ہے۔

۸۔ ہم دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔

۹۔ اس کے گھر میں ایک باغچہ ہے۔

۱۰۔ چھٹی کے دن وہ اس میں مشغول رہتا ہے۔

الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ

الْإِسْلَامُ دِينُ الْقُوَّةِ وَالْأَمْنِ

الْإِسْلَامُ دِينُ سَلَامٍ وَأَمْنٍ، كَمَا إِنَّهُ دِينُ قُوَّةٍ وَعِزَّةٍ، إِنَّ
الْإِسْلَامَ يُطَالِبُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِدًّا لِمُوَاجَهَةِ الْأَعْدَاءِ،
وَأَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ.
قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ قَوِيًّا شَجَاعًا، لَا ضَعِيفًا جَبَانًا. لِذَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:
"الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ."
لَيْسَ مَعْنَى الْقُوَّةِ أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ ظَالِمًا، بَلِ الْقُوَّةُ فِي الْإِسْلَامِ
وَسَبِيلَةٌ لِلدَّفَاعِ وَإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ. فَالْإِسْلَامُ يُعَلِّمُ الْمُؤْمِنَ دَرَسَ
الْأَمْنِ وَالسَّلَامِ. الْإِسْلَامُ دَعْوَةٌ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الْبَشَرِ، فَلِذَلِكَ جَاءَ
لِإِصْلَاحِ النَّاسِ وَلِإِحْتِرَامِ حُقُوقِ النَّاسِ وَلِإِنْشَاءِ مُجْتَمَعٍ جَدِيدٍ
يَقُومُ عَلَى الْأَمْنِ وَالنِّظَامِ وَالْمَحَبَّةِ.

تمرین

۱۔ واحد کی جمع بنائیں۔

دینؑ - نفسؑ - عدوؑ - مالؑ - ظالمؑ - قویؑ - ضعیفؑ -

۲۔ جملوں میں استعمال کریں۔

الإسلامؑ - يُجاهدؑ - المؤمنؑ - مجتمعؑ - حقوق الناسؑ -

۳۔ ترجمہ کریں۔

۱۔ اسلام ہمارا دین ہے۔

۲۔ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟

۳۔ نماز دین کا ستون ہے۔

۴۔ دین اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔

۵۔ اسلام اخوت کا درس دیتا ہے۔

۶۔ مسلمان، مسلمان کی مدد کرتا ہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۸۔ اسلام سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔

۹۔ اسلامی معاشرہ مثالی معاشرہ ہے۔

۱۰۔ حضرت محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں۔

الدَّرْسُ الْخَمْسُونَ

الْقُرْآنُ

لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُعْجِزَةً يُؤَيِّدُهَا. وَأَيَّدَ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِمُعْجِزَاتٍ كَثِيرَةٍ، أَفْضَلُهَا الْقُرْآنُ.

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. قَدْتُمْ نَزُولُ الْقُرْآنِ فِي مُدَّةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. وَالْقُرْآنُ مَكِّيٌّ وَمَدَنِيٌّ. فَالسُّورَةُ الَّتِي نَزَلَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ سُمِّيَتْ مَكِّيَّةً. وَالسُّورَةُ الَّتِي نَزَلَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ سُمِّيَتْ مَدَنِيَّةً.

أَخْرَجَ الْقُرْآنُ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الشُّرْكِ وَالضَّلَالِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ وَالْهُدَايَةِ. كَانَ النَّاسُ أَذِلَّةً ضِعْفَاءَ فَأَصْبَحُوا بِبِرْكَةِ الْقُرْآنِ أَعَزَّةً أَقْوِيَاءَ. فَالْقُرْآنُ دُسْتُورُ الْحَيَاةِ وَسِرُّ الْبَقَاءِ وَيَنْبُوعُ السَّعَادَةِ. هَذَا الْكِتَابُ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي كُلِّ مَيَادِينِ الْحَيَاةِ. وَقَدْ فَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ بِقَوْلِهِ وَعَمَلِهِ.

تمرین

۱۔ جواب دیں۔

- ۱۔ كَمْ كِتَابًا أَنْزَلَهُ اللَّهُ؟
- ۲۔ اذْكَرُ أَسْمَاءَ هَذِهِ الْكُتُبِ؟
- ۳۔ عَلَى مَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْكُتُبُ؟
- ۴۔ أَيُّ الْكُتُبِ نَزَلَ أَحْيَرًا؟
- ۵۔ كَمْ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ؟
- ۶۔ مَنْ جَاءَ بِالْوَحْيِ؟
- ۷۔ أَيْنَ نَزَلَ الْوَحْيُ الْأَوَّلُ عَلَى رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ؟

۲۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔
- ۲۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔
- ۳۔ یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے۔
- ۴۔ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔
- ۵۔ یہ دارین کی سعادت ہے۔
- ۶۔ قرآن کریم صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
- ۷۔ میرے چھوٹے بھائی نے دس پارے حفظ کر لئے ہیں۔
- ۸۔ قرآن کریم میں تیس پارے ہیں۔
- ۹۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔

الدَّرْسُ الحَادِي والخَمْسُونَ

حوَار

علی: (يَقْرَعُ الْبَابَ)

عمر: يَسْمَعُ قَرْعَ الْبَابِ وَيَفْتَحُ الْبَابَ.

علی: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

عمر: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلًا وَسَهْلًا.

كَيْفَ حَالُكَ يَا عَلِيُّ؟ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ أَيَّامٍ.

علی: أَنَا بِخَيْرٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. كَانَ عَمِّي مَرِيضًا، وَكُنْتُ

ذَهَبْتُ لِعِيَادَتِهِ إِلَى لَاهُورَ.

عمر: أَمْسُوطٌ أَنْتَ؟

علی: نَعَمْ، أَنَا مَسْرُورٌ جِدًّا.

عمر: لِمَ تَقُومُ هَكَذَا؟ اجْلِسْ يَا أَخِي عَلِيُّ الْأَرِيكَةِ.

وَمَاذَا تَشْرَبُ: أَبَارِدًا أَمْ سَاخِنًا؟

علی: لَا، شُكْرًا يَا أَخِي! إِنِّي جِئْتُ إِلَيْكَ لِنَخْرُجَ إِلَى

الْمُنْتَزَهَةِ، وَنَتَحَدَّثَ عَنِ وَطِنِنَا الْبَاكِسْتَانِ.

عمر: إِذَا نَخْرُجُ الْآنَ وَنَتَعَشَّى مَعًا بَعْدَ الرَّجُوعِ.

علی: مَتَى قَامَتْ بَاكِسْتَانُ وَمَنْ مُؤَسَّسُهَا؟

عمر: قَامَتْ بَاكِسْتَانُ فِي ١٤ أَيْسُطُسُ سَنَةِ ١٩٤٧ م

وَمُؤَسَّسُهَا الزَّعِيمُ الكَبِيرُ مُحَمَّدٌ عَلِيّ الجَنَاحُ.

علی: لِمَاذَا اِحْتِاجَ الْمُسْلِمُونَ اِلَى تَاسِيسِ دَوْلَةٍ مُنْفَصِلَةٍ؟

عمر: اِحْتِاجَ الْمُسْلِمُونَ اِلَى تَاسِيسِ دَوْلَةٍ مُنْفَصِلَةٍ لِكَيْ

يَعِيشُوا بِحُرِّيَةٍ وَفَقَ التَّعْلِيمَاتِ الْاِسْلَامِيَّةِ.

علی: مَا عَاصِمَةُ بَاكِسْتَانِ؟

عمر: عَاصِمَةُ بَاكِسْتَانِ اِسْلَامْ اَبَاد، وَهِيَ مَدِينَةٌ جَمِيلَةٌ تَقَعُ

عَلَى الْجِبَالِ الْخَضِرَاءِ.

علی: كَمْ اِقْلِيمًا فِي بَاكِسْتَانِ؟

عمر: فِي بَاكِسْتَانِ اَرْبَعَةٌ اَقَالِيمٍ: وَهِيَ الْبَنْجَابُ وَالسُّنْدُ

وَالْبَلُوشِسْتَانُ وَالْحُدُودُ الشَّمَالِيَّةُ الْغَرْبِيَّةُ.

علی: مَا عَدَدُ السُّكَّانِ فِي بَاكِسْتَانِ؟

عمر: عَدَدُ السُّكَّانِ فِي بَاكِسْتَانِ يَزِيدُ عَلَيَّ مِائَةً وَعِشْرِينَ

مِلْيُونًا.

علی: مَا نِسْبَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ؟

عمر: نِسْبَةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي الْمِائَةِ (٩٧٪)

علی: هَلْ بَاكِسْتَانُ بَلَدٌ زِرَاعِيٌّ اَوْ صِنَاعِيٌّ؟

عمر: بَاكِسْتَانُ بَلَدٌ زَرَاعِيٌّ وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ تَقَدَّمَتْ كَثِيرًا فِي
 مَجَالِ الصَّنَاعَةِ حَيْثُ تُوجَدُ فِيهَا مَصَانِعُ كَثِيرَةٌ.
 عَلِي: نَكْتَفِي الْيَوْمَ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْكَلَامِ، وَنَرْجِعُ إِلَى
 الْبَيْتِ لِنَتَنَاوَلَ الْعِشَاءَ.

تمرین

۱۔ ترجمہ کریں۔

- ۱۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے۔
- ۲۔ اس میں بلند پہاڑ اور وسیع میدان ہیں۔
- ۳۔ اس کی آب و ہوا معتدل ہے۔
- ۴۔ اس میں بہت سے کارخانے ہیں۔
- ۵۔ پنجاب کا دار الحکومت لاہور ہے اور سندھ کا کراچی۔
- ۶۔ کراچی پاکستان کی بندرگاہ ہے اور فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے۔
- ۷۔ سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے۔
- ۸۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں۔
- ۹۔ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہے۔
- ۱۰۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ

سِيرَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

وُلِدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ ١٥٧٠م وَهُوَ مِنْ قَبِيلَةِ قُرَيْشٍ، وَأَبُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. تُوَفِّيَ أَبُوهُ شَابًّا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَلَدْ بَعْدُ. فَلَمَّا وُلِدَ رَبَّاهُ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، وَأَرْضَعَتْهُ حَلِيمَةُ السَّعْدِيَّةُ وَمَاتَتْ أُمُّهُ وَعُمُرُهُ سِتُّ سِنِينَ. فَلَمَّا بَلَغَ الثَّامِنَةَ مِنْ عُمُرِهِ مَاتَ جَدُّهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. فَكَفَلَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ.

نَشَأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَّصِفًا بِمَحَاسِنِ الصِّفَاتِ، بَعِيدًا عَنِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَاشْتَهَرَ فِي قَوْمِهِ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ. فِي الْخَامِسَةِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُمُرِهِ تَزَوَّجَ السَّيِّدَةَ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ بَعْثِهِ يَخْرُجُ إِلَى غَارِ حِرَاءَ لِعِبَادَةِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَتَرَكَ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ. اسْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآله وسلّم في الدعوة والإرشاد بمكة ثلاث عشرة سنة. ولما
اشتدّ إيذاء المشركين له ولأصحابه أمره الله تعالى للهجرة إلى
المدينة. فهاجر إليها، فاستقبله أهل المدينة بالفرح والسرور.
وانتشر فيها الإسلام انتشاراً عظيماً. وتوفى النبي صلى الله
عليه وآله وسلّم في المدينة وعمره ثلاث وستون سنة.

إنّ الله تعالى أرسله إلى الناس جميعاً، وبعثه رحمة
للعالمين وكان صلى الله عليه وآله وسلّم متصفاً بالأخلاق
الحميدة والكمالات الرفيعة.

اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمدٍ أفضل صلوة
وأزكى تسليم، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه
المقام المحمود الذي وعده، وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك
لا تخلف الميعاد.

اللهم واجمعنا به عند حوضه المصفي نشرب منه شربة لا
نظماً بعدها أبداً.

أمين يارب العالمين.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ

الْكَاسِبُ حَيْبُ اللَّهِ

الْفَلَّاحُ: يَحْرُثُ الْأَرْضَ وَيَبْدُرُ الْحَبَّ وَيَسْقِي الْحُقُولَ،

وَيَخْصُدُ الزَّرْعَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نَأْكُلُ بِرَاحَةٍ.

الْحَدَّادُ: يَحْمِي الْحَدِيدَ فِي النَّارِ، وَيَطْرُقُهُ عَلَى السُّنْدَانِ،

وَيَصْنَعُ مِنْهُ الْمَسَامِيرَ وَالْمَنَاجِلَ وَالْفُؤُوسَ وَالسَّكَاكِينَ

وَالْمَعَاوِلَ وَالْمَحَارِيثَ.

النَّجَّارُ: يَعْمَلُ بِالْمِنْشَارِ وَالْمِطْرَقَةِ وَالْمِثْقَابِ وَالْمِسْحَجِ. يَنْشُرُ

الْخَشَبَ وَيَصْنَعُ مِنْهُ الْأَبْوَابَ وَالشَّبَابِيكَ وَالنَّوَاغِدَ وَالْمَقَاعِدَ

وَالْأَرَائِكَ وَالْمَنَاضِدَ.

الْخِيَّاطُ: يُمَسِكُ الْمِقْصَّ وَالْبِابِرَةَ وَالْمَقْيَاسَ، وَيَخِيْطُ الْمَلَابِسَ

الْمُتَنَوِّعَةَ.

الصَّائِغُ: يَصُوغُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَيَصْنَعُ مِنْهُمَا الْحُلَى مِثْلَ

الْقُرْطِ وَالْخَلْخَالِ وَالْعِقْدِ وَالسُّوَارِ وَالْخَاتَمِ.

الْحَلَّاقُ: يَعْمَلُ بِالْمِقْرَاضِ وَالْمَاكِينَةِ وَالْمِحْلَقِ

وَيَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَيَقْصُّ الْأَظْفَارَ، وَيَقْطَعُ الشُّوَارِبَ.

الْحَائِكُ: يَنْسُجُ لَنَا الثِّيَابَ مِنَ الْقُطْنِ.

هُؤُلَاءِ يَعْمَلُونَ بِأَيْدِيهِمْ وَيَجْتَهِدُونَ لِكَسْبِ الْقُوْتِ.

يَا بُنَيَّ! إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَنَا الْأَيْدِيَ لِنَعْمَلَ بِهَا. وَالْيَدُ الَّتِي لَا

تَعْمَلُ، لَا خَيْرَ فِيهَا. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْيَدَ الْعَامِلَةَ.

اعْمَلْ أَعْمَالًا نَافِعَةً لَكَ وَلِوَطْنِكَ.

إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

MARKAZ-UL-ISLAMIA ACADEMY

الدَّرْسُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ (الف)

مِنْ أَنْوَارِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ.

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.

مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ.

الدَّرْسُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ (ب)

مِنْ أَنْوَارِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ.

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ؟

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

MARKAZ-UL-ISLAMIA ACADEMY

الدَّرْسُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ (الف)

مِنْ بُسْتَانِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ

لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ.

الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ.

مَنْ عَفَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْعُسْرَةِ.

نِعْمَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ الصَّبْرُ وَالِدُّعَاءُ.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ.

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمُ.

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقَرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

أَفْضَلُ جِهَادٍ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

الدَّرْسُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ (ب)

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ".

النَّاسُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ.
إِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ
سُقْمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ
مَوْتِكَ.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ.
لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّتَيْنِ.
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

إِنَّ بُيُوتَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ.
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَالًا يَعْجِنِيهِ.
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ.

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ.
الرَّاشِيُّ وَالْمُرْتَشِيُّ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ.
الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ.
عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ، كَكَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ.

الدَّرْسُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ (ألف)

حِكْمٌ وَأَمْثَالٌ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

لِقَاءُ الْإِخْوَانِ جَلَاءُ الْأَحْزَانِ.
الْقَوِيُّ مَنِ يَنْتَصِرُ عَلَى هَوَاهُ.

لَا غِنَى كَالْعَقْلِ، وَلَا فَقْرٌ كَالْجَهْلِ، وَلَا مِيرَاثٌ كَالْأَدَبِ، وَلَا
ظَهِيرٌ كَالْمُشَاوَرَةِ.

الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ.

دَوَاءُ الْغَضَبِ الصَّمْتُ.

طَالِبُ الدُّنْيَا كَشَارِبِ مَاءِ الْبَحْرِ. كَلَّمَا ازْدَادَ شُرْبًا، ازْدَادَ
عَطْشًا.

الْقَلَمُ شَجَرَةٌ ثَمَارُهَا الْمَعَانِي، الْفِكْرُ بَحْرٌ لَوْلُوهُ حِكْمَةٌ.

التَّعَلُّمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ.

النَّحْوُ فِي الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ.

الْهَمُّ نَصْفُ الْهَرَمِ.

الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

مَنْ جَدَّ وَجَدَّ، وَمَنْ قَرَعَ الْبَابَ وَلَجَّ.

اعْتَمِدْ عَلَى نَفْسِكَ.
 رَبِّ إِشَارَةٍ أَبْلَغُ مِنْ عِبَارَةٍ.
 لَا تَأْمَنُ عَدُوَّكَ أَبَدًا.
 أَنْجَزَ حُرٌّ مَا وَعَدَ.
 النَّاسُ عَبِيدُ الْإِحْسَانِ.
 مَا حَابَ مَنْ اسْتَشَارَ.
 مَنْ جَالَ نَالَ.
 أَنْتَ تَحْصُدُ مَا زَرَعْتَ.
 أَنْتَ تَنْفُخُ فِي رَمَادٍ.
 الْحَيَاةُ ظِلٌّ زَائِلٌ.
 إِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ الْعَنْبِ.
 فِي الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ.
 جُرْحُ الْكَلَامِ أَشَدُّ مِنْ جُرْحِ السَّهَامِ.
 الْعِلْمُ بِلا عَمَلٍ كَشَجَرٍ بِلا ثَمَرٍ.
 خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ.
 مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ صَحَّ بَطْنُهُ، وَصَفَا فِكْرُهُ.
 مَنْ حَفَرَ بئْرًا لِأَخِيهِ فَقَدْ وَقَعَ فِيهِ.
 مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ بَلَغَ مُرَادَهُ.

الدَّرْسُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ (ب)

ثَلَاثَةٌ مَحْبُوبَةٌ: قُوَّةُ الْإِدْرَاكِ، وَالْعِصْمَةُ، وَالْعَطْفُ.

ثَلَاثَةٌ سَارَّةٌ: الْجَمَالُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَسَلَامَةُ الْقَلْبِ.

ثَلَاثَةٌ مَطْلُوبَةٌ: الصِّحَّةُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ، وَالصَّدِيقُ الْوَفِيُّ.

ثَلَاثَةٌ مَرْضِيَّةٌ: الْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ، وَالْإِخْلَاصُ، وَالْعَدَالَةُ.

ثَلَاثَةٌ مَكْرُوهَةٌ: الْقَسْوَةُ، وَالتَّشَاءُمُ، وَنُكْرَانُ الْجَمِيلِ.

ثَلَاثَةٌ مَذْمُومَةٌ: الْكَسَلُ، وَالْمُزَاحُ الْكَثِيرُ، وَالْخُرَافَاتُ.

يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى

عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّيُّوثُ.»

وَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

«ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزَلُنَّ جَدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ»

وَتَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:

الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.

الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ:

رَجُلٌ كَالْغَدَاءِ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، وَرَجُلٌ كَالدَّوَاءِ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ

إِلَّا حِينًا بَعْدَ حِينٍ، وَرَجُلٌ كَالدَّاءِ لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ أَبَدًا.

الدَّرْسُ السُّتُونَ (الف)

حكايات

امرأة ودجاجة

كانت لامرأة دجاجةٌ تبيضُ في كل يوم بيضة ذهب، فقالت في نفسها: إن كثرتُ قوتها باضتُ ببيضتين، فلما فعلت ذلك انشقتُ حوصلةُ الدجاجة فماتت.

المجوسيان والنار

كان في زمن مالك بن دينار رحمه الله مجوسيان يعبدان النارَ فقال الأصغر لأخيه الأكبر:

ياأيها الأخ! إننا عبدنا هذه النارَ زمناً طويلاً.

فتعال، ننظر هل تحرقنا النارُ كما تحرق من لم يعبدوها. إن لم

تتحرقنا عبدنا وإن تحرقنا فلا نعبدها أبداً.

فأوقدا نارا فقال الأصغر لأخيه: ضع يدك فيها. فوضع يده

فاحترقت، فنزع يده وقال:

أيتها النار! أنا أعبدك من مدةٍ طويلةٍ وأنت تُحرقيننى،

ثم قال لأخيه:

تعال يا أخى! نَعْبُدُ مَنْ خَلَقَ هَذِهِ النَّارَ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فِي

الأرضِ وَفِي السَّمَاءِ، وَنَعْبُدُ مَنْ يَغْفِرُ عِبَادَهُ إِذَا أَذْنَبُوا.

MARKAZ-UL-OLOMIYAT
ISLAMIA ACADEMY

الدَّرْسُ الحَادِي وَالسُّتُون (ب)

أسد وثوران

كان في الغابة ثوران يعيَّشان كالأخوين. يأكُلان ويشربان ويلعبان معاً. عندما هجم عليهما أسدٌ أو غيره من الوحوش، كانا يُدافعان ويغلبان عليه بقوة الاتحاد.

بعد زمن قليل حدث بينهما شجارٌ وجدال فافترقا. فعلم الأسد هذا الاختلاف بينهما، فهجم على الواحد منهما فلم يُساعده الآخر فافترسه وأكله. بعد أيام صال على الآخر فقضى عليه.

الإيثار

كان أبو الحسن النحوي ياكل يوماً شيئاً وعنده بعض أصحابه فجاءهم قطٌّ فرمّوا له لقمة فأخذها وغاب عنهم، ثم عاد إليهم فرموا له لقمةً ثانية. فأخذها وذهب، ثم عاد. فتعجبوا منه، فأرادوا أن يعرفوا سرّ عودة القط مراراً. فألقوا لقمة فتبعوه فوجدوا أنه يذهب بهذا الطعام إلى بيتٍ خراب فيه قط أعمى يضع الطعام بين يديه فتعجبوا من ذلك.

كيف يُهيئُ الله أسباب الرزق لمخلوقه.

الشَّمْسُ وَالرِّيحُ

تَخَاصَمَتِ الشَّمْسُ وَالرِّيحُ، فَقَالَتِ الرِّيحُ لِلشَّمْسِ:
 مَنْ يَقْدِرُ مِنَّا أَنْ يُجَرِّدَ الْإِنْسَانَ مِنْ ثِيَابِهِ. فَهَبَّتِ الرِّيحُ فَاشْتَدَّتْ
 فِي هُبُوبِهَا جَدًّا، فَكَانَ الْإِنْسَانُ كُلَّمَا تَزَايَدَ هُبُوبُهَا ضَمَّ إِلَيْهِ
 ثِيَابَهُ وَالتَّفَّ بِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.
 ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَارْتَفَعَ النَّهَارُ. لَمَّا اشْتَدَّ الْحَرُّ خَلَعَ الرَّجُلُ
 ثِيَابَهُ وَحَمَلَهَا عَلَى كَتِفِهِ.

لَا حَيَاةَ مَعَ الْيَأْسِ

انْهَزَمَ مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ فِي مَعْرَكَةٍ حَرْبِيَّةٍ، فَحَزَنَ لِذَلِكَ
 وَتَرَكَ جَيْشَهُ وَجَلَسَ وَحْدَهُ فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ. بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ
 يُفَكِّرُ فِي هَزِيمَتِهِ رَأَى نَمَلَةً تَجْرُ حَبَّةَ شَعِيرٍ وَتُحَاوِلُ أَنْ تَصْعَدَ
 بِهَا إِلَى مَسْكِنِهَا فَوْقَ الصَّخْرَةِ. كُلَّمَا أَرَادَتِ الصُّعُودَ سَقَطَتْ
 الْحَبَّةُ فَلَمْ تَتْرُكْهَا، بَلْ عَادَتْ وَحَمَلَتْهَا مَرَّةً ثَانِيَةً وَ ثَالِثَةً وَرَابِعَةً

الدَّرْسُ الثَّانِي وَالسُّتُونَ

حنان أم

نجيبٌ طفلٌ مُؤدَّبٌ يُحبُّ أبويه وإخوته. كانت عنده قِطَّةٌ جميلة، وكان يُداعِبُها ويمسحُ شَعْرَها الناعمَ ويهتمُّ بطعامها وشرابها ونظافتها، وهى أيضا تحبه وتجلس بجانبه وتموء مواءً لطيفاً وتنظر إليه بنظرة الحب. فى يوم رجع نجيب من المدرسة فوجد مع قِطته خمس قِطط صغار جميلة.

قالت له أمه: إن قِطتك ولدت هذه القِطط الصغار. كانت القِطَّة تحنو على صغارها وتُنظِّفها بلسانها وترضِعها وتشتغل بها ولا تلتفت إلى نجيب، فغضب غضباً شديداً ونقل القِطط من مكانها إلى مكان آخر عند غياب القِطَّة. لما رجعت القِطَّة الكبيرة إلى بيتها فلم تجد أولادها فى المكان الذى تركتها فيه أخذت تموء مواءً شديداً، وتَبَحَّت عنها فى كل زاوية من زوايا البيت.

قالت له أمه: يا بُنى! إن الإسلام أمر بالرفق بالحيوان، ونهى عن تعذيبه، ولا يجوز لك أن تحرم الأم من أبناءها. إن الأم لا تُطبق أن تتعد عن أولادها لحظة واحدة، فأعد إليها أولادها.

فأسرع نجيب إلى ققط صغيرة فأعادها إلى أمها، ففرحت
القطّة برؤيتها وأطمأن قلبها.

الْقِرْدُ وَالْقِطَّانِ

وَجَدَتْ قِطَّانِ قِطْعَةَ خُبْزٍ وَاخْتَلَفَتَا فِي قِسْمَتَيْهَا، فَذَهَبَتَا إِلَى
قِرْدٍ لِيُقَسِّمَهَا بَيْنَهُمَا. فَضَرَبَ الْقِرْدُ بِذَلِكَ فَقَسَمَ الْقِطْعَةَ قِسْمَيْنِ
أَحَدُهُمَا كَبِيرٌ وَالْآخَرُ صَغِيرٌ، وَضَعَ كُلًّا مِنْهُمَا فِي كِفَّةٍ
الْمِيزَانِ فَرَجَحَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى، فَأَكَلَ مِنَ الْقِطْعَةِ
الْكَبِيرَةِ حَتَّى صَارَتْ أَصْغَرَ مِنَ الْآخَرَى. وَاسْتَمَرَ يَأْكُلُ مِنْ
كُلِّ قِطْعَةٍ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْكُلَ قِطْعَتَيْنِ.

فَقَالَتِ الْقِطَّانِ: نَحْنُ رَضِينَا بِالْقِسْمَةِ فَأَعْطِنَا الْبَاقِيَةَ. فَقَالَ
الْقِرْدُ: الْبَاقِيُ أَجْرٌ لِلْقِسْمَةِ.

فَنَدِمَتِ الْقِطَّانِ، وَرَجَعَتَا بِالْخُسْرَانِ وَالْحِرْمَانِ.

الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالسُّتُونَ

طَرَائِفُ وَفُكَاهَاتُ

كان (باقل) من الحمقى وكان عاجزاً عن بيان ما في الضمير. مرة اشترى غزالاً بأحد عشر درهماً. وسُئِلَ بكم اشتريت الغزال؟ ففتح يديه كليهما وأشار بأصابعه العشر وأخرج لسانه لِيُتِمَّ العددَ أحد عشر ففرَّ الغزال.



من كبار الحمقى (جُحَا) قد اشترى يوماً دقيقاً واستأجرَ حَمَلاً ليحمل الدقيقَ إلى بيته. فحمل الحمال الدقيقَ على رأسه، ومشى معه إلى بيته. أثناء الطريق دخل الحمال في الزحام وفرَّ بالدقيق. بعد أيام رآه جحاً، فاستتر منه لئلا يطالبه بالأجرة.



سرق لصان حماراً وذهب أحد هما لبيعه في السوق فلقبه رجل معه طبقٌ فيه لحمٌ مشويٌّ.
فقال له: هل تبيعُ هذا الحمار؟
قال، نعم.

قال. خذ هذا الطبق حتى أركب الحمار، أنظر إليه. فأخذ منه الطبق وأعطاه الحمار. فركب الرجل الحمار ودخل زقاقاً وفرباً الحمار. وأخذ اللص يبحث عن سارق الحمار فلم يجده. فرجع إلى صاحبه اللص الآخر.

فقال له: بكم بعت الحمار؟

قال: بعته برأس ماله، وربحنا هذا الطبق من اللحم.



سئل عن العباس بن عبدالمطلب (رضي الله تعالى عنه) أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر وأنا وُلدتُ قبله.



جلس صبي مع قوم ياكلون، فبكى.

قالوا: لِمَ تبكى؟

قال: الطعام حارٌّ.

قالوا: أتركه حتى يبرد.

قال: كيف أتركه وأنتم لا تتركونه؟

كان هَبْنَقَةٌ من الحمقى. حُكِيَ أَنَّهُ جَعَلَ قِلَادَةً فِي عُنُقِهِ.

لِمَ سَأَلَ عَنْهُ لِمَاذَا لَبَسْتَ الْقِلَادَةَ فِي عُنُقِكَ؟

قَالَ: لَكِي أَعْرَفَ بِهَا نَفْسِي لئَلَّا أَضِلَّ. فَلَبَسْتُهَا يَوْمًا أَخُوهُ. لَمَّا

أَصْبَحَ وَرَأَاهَا فِي عُنُقِ أَخِيهِ، قَالَ لَهُ: يَا أَخِي إِنْ كُنْتَ أَنْتَ

أَنَا فَمَنْ أَنَا إِذَا؟

مشکل الفاظ کے معانی

عیدی	العيدية	سبق نمبر ۱	جدہ
سبق نمبر ۵		دادی جان	أحاول
حفاظت کرتا ہے	يحرسُ	میں کوشش کرونگی	شيخ
مویٹھی	الماشية	سبق نمبر ۲	رق
بال	شعر	بوڑھا آدمی	نقود
وہ چلتا ہے	يمشي	نرم ہو گیا	رجع
ساتھ رہتا ہے	يرافق	نقدی	
سبق نمبر ۶		وہ لوٹا	
سبق نمبر ۱		سبق نمبر ۳	
دن طلوع ہوا	طلع النهار	ہدایت یافتہ	الراشدين
بل چلاتا ہے	يحرث	میں نہیں جانتا	لا أدري
کارگر	الصانع	وہ شریک ہوا	إشترك
ہسپتال	المستشفى	سبق نمبر ۴	
وہ لوٹا	عاد	خوشی	الفرحة
تاکہ آرام پہنچائے	ليُريح	غسل کرتے ہیں	يغتسلون
تھکاوٹ	تعب	پہنتے ہیں	يلبسون
سبق نمبر ۷		تکبیر کہتے ہیں	يكبرون
گنبد	قبة	حمد و ثنا کرتے ہیں	يحمدون
دو مینار	مئذنتان	معانقہ کرتے ہیں	يعانقون
وہ آتے ہیں	ياتون	قریبی رشتہ دار	الأقارب

سبق نمبر ۱۱

گھڑی	الساعة
میں پہچانتا ہوں	أعرف
سونیاں	عقارب
منٹ	الدقائق
گھومتی ہے	يدور
شمار کرتی ہے	يعدّ
سیکنڈ	الثواني (ثانية)

سبق نمبر ۱۲

تاکہ ہم زندہ رہیں	لنعيش
بھوک	جوع
نہ بھر	لا تملأ
چباؤ	امضغ
بعد، پیچھے	عقب

سبق نمبر ۱۳

دونوں	كلاهما
غمزہ ہوا	حزن
چائے	الشاي
گم ہوئی	ضاع
میں لوٹاؤں گا	أردّ

سبق نمبر ۱۴

پھل	الفواكه
موسم گرما	الصيف

سبق نمبر ۸

خطوط	الرسائل
لو، پکڑو	خذ
غور سے سن	استمع
ملاقات	لقاء
آؤ	تعال
میں امید کرتا ہوں	أرجو

سبق نمبر ۹

یاد دلایا	ذكّر
تیار ہو جاؤ	استعدّ
بسوں کا اڈا	موقف الحافلات
دو ٹکٹیں	تذکرتین
پہاڑ	الجبال
بلند و بالا	الشامخة
برف	ثلج

سبق نمبر ۱۰

عیادت، بیمار پر سی	عيادة
مجھے بخار ہو گیا	أصابتنى الحمى
اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے	شفاك الله
اب	الآن
میں اجازت چاہتا ہوں	أستاذن

الشتاء
المانجو
بطيخ
شمام
العنب
أنواع
خوخ
تين
برقوق
يُصنع
المربي
غال
رخيص

صاف ستھری
سبق نمبر ۱۷
ہم رہتے ہیں
نیک اعمال
ہم بلند کریں گے

سبق نمبر ۱۸

آزادی
ایک چڑیا
چلایا
پنجرا
وہ قید کرتا ہے
غور و فکر کیا
آزاد کر دیا
جنگلی جانور
جنگل
ملک
غلامی

الحریة
عصفورة
صاح
قفص
يجبس
فکر
أطلق
الوحش
الغابة
البلاد
العبودية

آزاد کر دیا
جنگلی جانور
جنگل
ملک
غلامی

سبق نمبر ۱۵

تیار کرنا
گڑیا
فٹ بال

إعداد
دُمیة
كرة القدم

سبق نمبر ۱۶

نقصان دیتی ہے
کمزور کرتی ہے
سبب بنتی ہے
دھواں

یضر
یضعف
یسبب
دخان

پہیلیاں
سیراب کرتا ہے
چلتی ہے
لائن، پٹری

الألغاز
یسقی
تسیر
قضیب

سبق نمبر ۲۱

عاقل کیلئے	من (کون)
غیر عاقل کیلئے	ما (کیا)
تعداد کیلئے	کم (کتنا)
ناشتہ کیا	تناول الفطور
لابریری	مکتبہ
پیانہ	مسطرة
مالٹے کا جوس	عصیر البرتقال
جوتا	حذاء

فصل الشتاء	موسم سرما
مهندس	انجینئر
دکتور	ڈاکٹر

سبق نمبر ۲۲

پاکدامن	عفیفة
تھکا ماندہ	متعب
موسلا دھار	غزیر
بیدار	ساہر
ریٹائر	متقاعد
گھونسلہ	عش

سبق نمبر ۲۳

ختم ہو گیا	نفذ
بد صورت	دمیم الصورة

ڈبے

اڑتا ہے	تطیر
گردن	رقبة
کوبان	سنام
سونڈ	حراطوم
دودھ پلایا	أرضعت
کاٹتا ہے	یعض
شکار کرتی ہے	تصيد
چوہے	الفئران
دم	ذیل
بنی ہوئی	مصنوع
لکڑی	الخشب
پر	ریش
تیرتی	تعوم
مرغابی	الإوزة

سبق نمبر ۲۰

ترانے، گیت	الأناشید
میں پکارتا ہوں	أدعو
میں نہیں بھولتا	لست أنسى
خوش آمدید	أهلاً
نیکیاں	الحسنات
عمدہ چیز	طیب
پہلو	جانب

قادیقود	چلانا	تیار	جائزہ
تغرید	چہکار	دمغ	آنسو
سبق نمبر ۲۶		درلامع	چمکتا موتی
گفتگو	حوار	سبق نمبر ۲۴	
ہسپتال	مستشفى	چڑیا گھر	حدیقة الحیوان
مریض کی جمع	مرضى	تعطیلات	إجازات
چیک کیا	فحص	ٹی پارٹی	حفلة الشای
تجویز کی	وصف	تیار کیا	جہز
چلاتا ہے	يقود	سٹیشن	محطة
ڈرائیور	سائق	وقت مقررہ	موعد
میں رات کا کھانا کھاتا ہوں	اتعشى	اُسس	بنایا
جلدی جلدی	مبکرا	ظہیرہ	دوپہر
تذکرہ	تکلیف	سبق نمبر ۲۵	
رصیف	پلیٹ فارم	شہد	عسل
مقعد	سیٹ	چکر لگاتا ہے	یتجول
خال	ماموں	کو تا ہی کرتا ہے	يقصر
سبق نمبر ۲		بچپن	الصبا
تجویز	اقتراح	جلیبی	مشبك
سکون	هدوء	تیراکی	سباحة
پنجرے	أقفاص (قفس)	بچپن	طفولة
طوطا	بیغاء	فی الزمن القديم	پرانے زمانے میں
رنگ برنگی	ملونة	سراج	دیا

سابق نمبر ۲۹	کبوتر	حمام
صحن	بھیڑیا	ذئب
پھینکا	لومڑی	ثعلب
ردی کی ٹوکری	ریچھ	دب
گھنٹی بجی	بندر	قرود
کلاس روم	ہاتھی	فیل
کاپیاں	مگر مچھ	تمساح
ردی چیزیں	قسم قسم کی	متنوعہ
خیال رکھنا	حاکمی بھاکمی	نقل اتارنا
نظیف	رقص یرقص	ناچنا
تراب	خرطوم	سونڈ
قدر	غزال طبی	ہرن
وسیلہ	سکن یسکن	بسیرا کرنا
سواک	ماکر	مکار
حذر بجزر	اُرنب	خرگوش
سابق نمبر ۳۰	دب یدب	ریٹلنا
تلاوت کرنا	سابق نمبر ۲۸	
دوڑنا	مخت	جد
سوگھنا	روزی کماتا	کسب القوت
صاف	متحف	عجائب گھر
اغتسل یغتسل	اشتد یشتد	شدید ہونا
مطبخ	نہانا	
	باورچی خانہ	

آم	مانجو	أعد يعد	تیار کرنا
موسم خزاں	خریف	مذیاع	ریڈیو
موسم بہار	ربیع	ذکی فطین	ذہن

نزہة

سیر

سبق نمبر ۳۱

سبق نمبر ۳۳

بل چلانا

حوت یحوت

عمل کرنا، پیروی

اتباع

گندم

القمح

بسم اللہ پڑھنا

سمی یسمی

چاول

أرز

ساقی

قدام

جو

شعیر

ضرورت

حاجة

مسور

عدس

چبانا

مضغ بمضغ

چنے

حمص

آلودہ کرنا

لوث یلوث

سبزیاں

خضروات

بلع یبلع

نگلنا

ٹریکٹر

جرار

عصیر

جوس

پھل

فواکہ (فاکہہ)

سبق نمبر ۳۲

اولی کپڑے

ملابس صوفیة

مویشی

ماشیة

چوسنا

مص بمص

ہاتکتا ہے

یسوق

گنا

القصب

مکھن

زبد

ہلکے ہلکے

خفیفہ

گھڑا

جره

پکھے

المراوح (مروحة)

آٹا گوندھنا

عجن یعجن

تربوز

بطیخ

روٹی پکانا

خبز یخبز

کھیرا

خیار

دودھ دھونا

حلب یحلب

آڑو

خوخ

پالنا

ربی یربی

آلو بخارا

برقوق

المدرسة المتوسطة مڈل سکول

سبق نمبر ۳۴

دقیق	آتا
یتحادثان	گفتگو کر رہے ہیں
موقف	اڈا
غرس	لگانا
صاد یصيد	شکار کرنا
ودع یودع	الوداع کرنا

سبق نمبر ۳۶

لعبة لعب	کھلونے
حلوی	مٹھائی
عيدية	عیدی
هنأ یهنئ	مبارک دینا
متخاصمون	جھگڑنے والے
عائق یعائق	گلے ملنا
أفراح (فرح)	خوشیاں

عيد کا چاند

ھلال العید

سبق نمبر ۳۷

رعى یرعى	دیکھ بھال
ھیأ یھیئ	تیار کرنا، فراہم کرنا
قبل یقبل	بوسہ لینا
لاعب یلاعب	کھیلنا، دل لگی کرنا
فضل	مہربانی، احسان
حاکى یحاکى	نقل اتارنا
مهد	پنگھوڑا

سبق نمبر ۳۸

أرشد یرشد	رہنمائی کرنا
ضلال	گمراہی

سبق نمبر ۳۵

صورة	تصویر
ادخر یدخر	جمع کرنا
قطع یقطع	ٹلے کرنا
شبكة	جال
ملعقة	چمچ
مرآة	آئینہ
جزء	پارہ

راتب

مالي

قاعة

ہال

سبق نمبر ۳۹

مدد	مساعدہ		
جار (حیران)	پڑوسی	کھیتی	زرع
حفظ یحفظ	یاد کرنا	چوپائے	دواب (دابة)
خدع یخدع	دھوکہ دینا	ہاتھ	ایدی (ید)
آذی یوذی	تکلیف دینا	پاؤں	أرجل (رجل)
		کان	أذن

سبق نمبر ۴۲

دم	ذیل	نافرمانی کرنا	عصى يعصى
چونچ	منقار	کائنات	کون
چھوٹی	قصیر		
بیدار ہونا	یصحو	چھین لیا، اچک لیا	اختطف
میٹھا، میٹھی	عذب	قصاب کی دکان	حانوت الجزار
گھونسلا	عش	پکڑا	أمسك
خوراک	قوت	چونچ	منقار
چگنا	التقط يلتقط	گیت	أغنية
دانے	الحب	دھوکہ کھا گیا	انخدع
تنکے	قش	کائیں کائیں کرتا ہے	ینعق

سبق نمبر ۴۰

أجنحة	پر	نگل لیا	التقم
اختطف	چھیننا	مر - میر	گذرنا

سبق نمبر ۴۱

أفراخ	چوزے	سلوک کرنا	عامل يعامل
باض بیض	انڈا دینا	ارادہ کرنا	حاول یحاول
دراج	تہتر	پہنچایا	أوصل
سمانی، سلوی	بٹیر		

سبق نمبر ۲۵

ہٹ لگانا	قذف
ٹکراتا	صدم
شیشہ	زجاج

مدیر المدرسة ہیدماٹر

زقاق	گلی
شاجر یشاجر	جھگڑا کرنا
مداد	سیاہی
لوٹ یلوٹ	آلودہ کرنا

سبق نمبر ۲۶

شینا فشینا آہستہ آہستہ

چھپانا	حجب یحجب
کڑک	رعد
بجلی	برق
چمکتی ہے	یلمع
چھتری	مظلة
پرنا لہ	میزاب
کچھڑ	وحل
بھلتا ہے	ینزلق
رک گئی	انقطع
تالاب	برکة - غدیر

چیل حداء

کیڑے مکوڑے حشرات

مرغابی الاوز

سبق نمبر ۲۳

ہبط یهبط ارتنا

صعد یصعد بلند ہونا

بغل خچر

بواخرہ (باخرہ) بحری جہاز

عجلات (عجلة) تانگے

دراجة نارية موٹر سائیکل

سفینہ کشتی

سبق نمبر ۲۴

مذاکرہ	پڑھائی
یزعج	تنگ کرتا ہے
یتلف	تلف - ضائع کرنا
رمان	انار

سامنے قدام - امام

پانی دینا سقی یسقی

حفاظت کرتا ہے یرعی

گھاس عشب

چھلکے قشور

پری عادت عادة قبیحة

سبق نمبر ۴۷

بز دل	جبان	کاٹنا	شص
تعمیر کرنا	إنشاء	چٹان	صخره
معاشرہ	مجتمع	ٹوکری	سلة
در گذر	التسامع	محسوس کی	شعر
یدعو	دعوت دیتا ہے	ڈوری	خیط
المجتمع الاسلامی	اسلامی معاشرہ	کھینچنا	جذب
عماد	ستون		

سبق نمبر ۵۰

تائید کرنا	أید یؤید	اھترز یھترز	حرکت کرنا
ذلیل کی جمع	أذلة	قلی یقلی	تلنا
قوی	أعزة (عزیز)	زیت	تیل
راز	سر	سلحفاة	کچھوا
سر چشمہ	ینبوع	یئس یئس	مایوس ہونا
خالد	بہیشہ رہنے والا	صفر الیدین	خالی ہاتھ

سبق نمبر ۴۸

هدی بھدی	رہنمائی کرنا	زندگی گزارنا	عاش یعیش
توضاً بتوضاً	وضو کرنا	اختیار کرنا	اختار یختار
تحفیظ	حفظ کروانا	غیبت کرنا	اغتاب یغتاب
		محفوظ	سالما

سبق نمبر ۵۱

کھٹکھٹاتا ہے	یقرع	پرہیزگار	تقی
خوش باش	مبسوط	گہرا	حمیم
صوفہ	أریكة		
بانی	مؤسس	سبق نمبر ۴۹	
		مقابلہ	مواجهة

گینتی	معاول (معاول)	لیڈر	زعیم
ہل	محاریٹ (محرث)	الگ ملک	دولة منفصلة
بڑھی	بنجار	مطابق	وفق
ہتھوڑی	مطرقة	دار الخلافہ	عاصمة
ڈرل مشین	مثقاب	صوبہ	إقليم
رندھا	مسحج	دس لاکھ	مليون
میز	مناضد (منضد)	میدان	مجال
درزی	خیاط	جو	آب و ہوا
تینچی	مقص	قنوات (قناة)	نہریں
سوئی	إبرة	میناء	بندرگاہ
پیانہ	مقیاس	لغة رسمية	سرکاری زبان
زرگر	صائغ	سبق نمبر ۵۳	
سونا	ذهب	بیج ڈالتا ہے	بیڈر
چاندی	فضة	کاشا ہے	بھصد
زیورات	حلی	حفاظت کرنا	بھمی
بالی	قرط	لوہار	حداد
پازیب	خلخال	کوٹھا ہے	یطرق
ہار	عقد	آرن	سندان
کنگن	سوار	کیل	مسامیر (مسماں)
انگوٹھی	خاتم	درانتی	متاجل (منجل)
حجام	حلاق	کلہاڑا	فوؤس (فاس)
تینچی	مقراض	چھری	سکاکین (سکین)

انگارے	الجمر	مشین	ماکینہ
تنگی، پریشانی	عسرہ	استرا	محلّق
خاموش رہے	لیصمت	کاٹتا ہے	یقص
بھوکا	جائع	ناخن	أظفار (ظفر)
ظالم	جائر	مونچھیں	شوارب (شارب)
سبق نمبر ۵۷		جولاہا	حائک
کنگھی	مسط	بناتا ہے	ینسج
بیماری	سقم	سبق نمبر ۵۴	
نہیں ڈھسا جاتا	لایلدغ	وعظ و نصیحت	موعظہ
بے فائدہ	مالا یعنیہ	برائی	منکر
رشوت دینے والا	الراشی	بدکاری	فحشاء
خزانہ	کنز	گروہ، جماعت	فئۃ
بڑھاپا	هرم	سبق نمبر ۵۵	
چغل خور	غمام	تیار کی گئی	أعدت
سوراخ	جحر	برابر ہونا	یستوی
اصل جڑ	راس	مطمئن ہونا	تطمئن
رشوت لینے والا	المرتشی	تم شمار نہیں کر سکتے	لا تحصو
سبق نمبر ۵۸		نمونہ	أسوہ
دور کرنا	جلا	سبق نمبر ۵۶	
مددگار	ظہیر	بہت زیادہ معاف کرنے والا	عفو
نمک	ملح	ہتھیار	سلاح
چھپا ہوا	مخبوء	شکم سیر ہوتا ہے	یشبع

بیاری	داء	داخل ہوا	وخ
پاک دامنی	عصمة	خواہش	ہوی
دل کی سختی	القسوة	موتی	لؤلؤ
کسی کی نیکی کا انکار	نکران الجمیل	غم	الهم
نافرمان	العاق	کھٹکھٹایا	قرع
سنجیدگی	جد	پورا کیا	انجز
غلام آزاد کرنا	عتاق	راکھ	رماد

سبق نمبر ۶۰

سونا	دھب	زخم	جرح
جلاتی ہے	مخرق	صاف ہوا	صفا
جل گئی	احترقت	چھپایا	کتھم
جنگل	الغابه	ڈھلتی چھاؤں	ظل زائل
جنگلی جانور	وحوش	کانٹا	الشوك
پھاڑ ڈالا	افترس	تیر	سہام - سہم
پھینکا	رموا	کھودا	حفر

سبق نمبر ۵۹

ہوا کا چلنا	ہبت	قوت علم و فہم	قوه الإدراك
شکست کھا گیا	انہزم	پسندیدہ	مرضیة
جو کا دانہ	حبة شعیر	بدشگونہ	التشاؤم
پوٹا جانوروں کا معدہ	حوصلة	عادی	مدمن
رکھو	ضع	بے غیرت	دیوث
نکالا	نزع	مذاق	ہزل

سبق نمبر ۲۳

اجتہاد کی جمع	حقیقی	حملہ کرنا	ہجیم
آٹا	دقیق	لڑائی جھگڑا	شجارو جدال
مزدور	حمال	حملہ کیا	صال
پلیٹ	طبق	مہیا کرتا ہے	بھٹی
اصل سرمایہ	رأس المال	خالی کرنا	بچرد
ہار	قلادة	ملایا	ضم
ہرن	غزال	جنگی معرکہ	معرکہ حربیہ
کرایہ پر لیا	استاجر	اوپر چڑھنا	تصعد
چھپ گیا	استتر	ناکام ہونا	فشل
بھنا ہوا گوشت	لحم مشوی	تیار کرنا	أعد
ٹھنڈا ہونا	بیرد	سبق نمبر ۲۳	
گم ہونا	ضل	کھیلنا	یداعب
		نرم و ملائم	الناعم
		شفقت کرنا	تحنو
		کونا	زاویہ
		ترازو کا پلڑا	کفة المیزان
		اجرت کرایہ	أجر
		پونچھنا	یمسح
		میاؤں میاؤں کرنا	تموء
		تلاش کرنا	تبحث
		نرمی	الرفق
		پلڑا بھاری ہو گیا	رجحت

محتويات الكتاب

الدرس	العنوانات	الصفحة	الدرس	العنوانات	الصفحة
١	القرآن الكريم	٣	١٧	وطننا	٣٥
٢	الإحسان	٥	١٨	الحرية	٣٧
٣	سيدنا علي	٧	١٩	الألغاز	٣٩
٤	يوم العيد	٩	٢٠	الأناشيد	٤١
٥	صديق الفلاح	١١	٢١	استفهام	٤٣
٦	العمل	١٣	٢٢	كان وأخواتها	٤٥
٧	المسجد	١٥	٢٣	إن وأخواتها	٤٧
٨	الرسالة	١٧	٢٤	الماضي البعيد	٥٠
٩	السفر	١٩	٢٥	الماضي الاستمراري	٥٢
١٠	عيادة المريض	٢١	٢٦	حوار	٥٤
١١	الساعة	٢٣	٢٧	حديقة الحيوان	٥٦
١٢	الأكل	٢٥	٢٨	أوقات	٥٨
١٣	الصديقان	٢٧	٢٩	النظافة	٦١
١٤	الفواكة	٢٩	٣٠	حوار	٦٣
١٥	الأخ والأخت	٣١	٣١	آداب الطعام	٦٥
١٦	الهواء	٣٣	٣٢	فصول السنة	٦٧

٦٩	الفلاح	٣٣
٧١	العدد (الف)	٣٤
٧٤	العدد (ب)	٣٥
٧٧	يوم العيد	٣٦
٧٩	الإحسان بالوالدين	٣٧
٨٢	حب النبي ﷺ	٣٨
٨٤	الله رب العالمين	٣٩
٨٦	الغراب والثعلب	٤٠
٨٨	طالب مثالي	٤١
٩٠	العصفور	٤٢
٩٣	وسائل النقل	٤٣
٩٥	النصيحة	٤٤
٩٧	الصدق	٤٥
٩٩	المطر	٤٦
١٠١	صيد السمك	٤٧
١٠٣	الصديق	٤٨
١٠٥	الإسلام دين القوة والأمن	٤٩

۱۰۷	القران	۵۰
۱۰۹	حوار	۵۱
۱۱۲	سيرة النبي	۵۲
۱۱۴	الكاسب حبيب الله	۵۳
۱۱۶	من أنوار القرآن الكريم (الف)	۵۴
۱۱۸	(ب)	۵۵
۱۲۰	من بستان الحديث الشريف (الف)	۵۶
۱۲۱	(ب)	۵۷
۱۲۲	حكم و أمثال (الف)	۵۸
۱۲۴	(ب)	۵۹
۱۲۵	حكايات (الف)	۶۰
۱۲۷	(ب)	۶۱
۱۳۰	حنان أم	۶۲
۱۳۲	طرائف و فکاهات	۶۳
۱۳۵	مشکل الفاظ کے معانی	۶۴
۱۵۰	محتویات الكتاب	

August-2018

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 200

شعبہ حفظ: 145

شعبہ تجوید: 11

درس نظامی: 105

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں سے 400 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹرنیٹک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 100 طلباء مدرسہ میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا خرچہ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ: 14 اساتذہ

شعبہ درس نظامی و تجوید: 10 اساتذہ

شعبہ عصری علوم (اسکول): 11 اساتذہ

چوکیدار: 2

خادم: 4

باورچی: 2

مدرسہ
کاسٹاف

کل طلباء کم و بیش 461 اور پورا اسٹاف 43 افراد پر مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھادر کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - branchcode: 0050

f @markazuloom

▶ waseem ziyai

www.waseemziyai.com

قرآن کتاب ہدایت ہے۔
مکمل ضابطہ حیات ہے۔

قرآن ہماری دنیوی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔
قرآن کو سمجھنے اور اس عمل کرنے کی کوشش کریں

پیر محمد کرم شاہ رضا ازہری کی معرکہ آرا تفسیر

خوبصورت ترجمہ! بہترین تفسیر

ضیاء القرآن

فہم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے

تجھ کر: جس کے ہر لفظ سے اعجاز قرآن کا حُسن نظر آتا ہے

تفسیر: اہل دل کے لیے درد و سوز کا ارمغان

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
لاہور